

در سیدنا میرعلویہ

رضی اللہ عنہما الخوارزمیہ الجلیل عند ۲۰۱۳ء

رسائل فی افضال معویہ

۱۴۳۴ھ

تحت اشراف

ڈاکٹر محمد رفیق عثمانی

تقدیم و ترتیب

فتح رضا کتب خانہ قادری

رسمات تحقیق سے

شیخ محمد حیات مندی

علامہ عبدالعزیز پیرہاروی

مولانا عبدالقادر بدایونی

علامہ محمد عبدالرشید جھنگوی

پیر سائیں غلام رسول قاسمی

علامہ سید شاہ حسین گوردیزی

دارالاسلام

فلاح سیدنا میر معاویہ

مضی نور اللہ اور الجلیل ہند ۲۰۱۳ء

رسائل فی افضال معویہ

۵۱۴۳۴

مر شیخ محمد حیات مندی

مر علامہ عبد العزیز چوہدری

مر مولانا عبدالقادر بدایونی

مر جلال محمد عبدالرشید بھٹی

مر پیرائیں غلام رسول تھانی

مر ملا سید شاہ حسین گردیزی

ڈاکٹر محمد رفیق جلالی

ڈاکٹر محمد رفیق جلالی

الضیاء پبلیکیشنز

۱۱، سید ابراہیم شاہ روڈ، پاکستان

Ph: 042-3730051

Call: 0300-7259263, 0315-4959263

جملہ حقوق محفوظ ہیں

دفاع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما الجواد الجلیل عنہ (۲۰۱۳ء)	نام کتاب
رسائل فی افضال معاویہ (۱۴۳۴ھ)	رسخات تحقیق
شیخ محمد حیات سندھی، علامہ عبدالعزیز پرباروی، مولانا عبدالقادر بدایونی	تقدیم و ترتیب
علامہ محمد عبدالرشید جھنگوی، پیر سائیں غلام رسول قاسمی	ناشر
محمد رضوان الحسن قادری (مؤسس دائر الاسلام، لاہور)	لیگل ایڈوائزر
والضخی پبلی کیشنز، دربار مارکیٹ، لاہور، پاکستان	اشاعت بار اول
محمد صدیق الحسنات ڈوگر؛ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ لاہور	بار دوم
صفر المظفر 1434ھ / جنوری 2013ء	تعداد
ذوالحجہ 1435ھ / اکتوبر 2014ء	قیمت
1100	
220 روپے	

سبیل یوانٹنٹس

مکتبہ فیضانِ مدینہ، مدینہ ٹاؤن، فیصل آباد 6021452-0346-0312-6561574

دار الاسلام، امدان پور، لاہور

الوزار الاسلام، پشاور، بہاول نگر

تفہیم الاسلام، لاہور، لاہور

رضا بک پبلشرز، کراچی

مکتبہ دارالعلوم، کراچی

مکتبہ دارالعلوم، کراچی

مکتبہ دارالعلوم، کراچی

مکتبہ دارالعلوم، کراچی

مکتبہ دارالعلوم، کراچی

مکتبہ نورید ضویہ پبلی کیشنز؛ فیصل آباد، لاہور

مکتبہ برکات المدینہ؛ کراچی

مکتبہ غوثیہ ہول سٹل؛ کراچی

احمد بک کارپوریشن؛ راول پنڈی

البعث بک سٹور، فیصل آباد

مکتبہ قادریہ، لاہور، کراچی

مکتبہ صحیحہ، بہاول نگر

جمہوری بک شاپ، کراچی

اتحاف و اتصاف

بہ گرامی خدمت حضرت مرتضویہ علویہ

شمع شبستانِ ولایت، بہارِ چمنستانِ معرفت

امام الواصلین، سید العارفین، خاتم خلافتِ نبوت، فاتح سلاسلِ طریقت

مولیٰ المسلمین، امیر المؤمنین، ابوالائمۃ الطاہرین، طاہر مطہر، قاسم کوثر

امام المشارق والمغرب، منظر العجائب والغرائب

اسد اللہ الغالب، مطلوبِ کل طالب

حضرتنا و سیدنا و مرشدنا و کریمنا و محبوبنا و مولانا

علی ابن ابی طالب

حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ

فہرں رسائل

۱۔ رسالہ فی فضل معاویہ: شیخ محمد حیات سندھی

مترجم: مولانا محمد عبداللہ فیہمی سندھی

17

۲۔ تصحیح العقیدہ فی باب امیر معاویہ: مولانا عبدالقادر بدایونی

22

ترجمہ: اختلاف علی و معاویہ: علامہ سید شاہ حسین گروہری

۳۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے کے کچھ سوالات کے جوابات

علامہ محمد رشید جھنگوی

۴۔ صافیہ لما وقع بین علی و معاویہ

۵۔ الثابۃ عن طعن امیر المؤمنین

ترجمہ: معترضین

عقیدتنا فی علی و معاویہ رضی اللہ عنہما

”رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؛ اُن کا درجہ ان سب (حضرات عشرہ مبشرہ و وزیر و طلحہ) کے بعد ہے اور حضرت مولیٰ کے مقام رفیع و شانِ ملیح تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن میں ہزاراں ہزار رہوار برق کردار صبار فاقہ تھک رہیں اور قطع نہ کر سکیں، مگر فضلِ صحبت۔ ہم تو بجز اللہ سرکار اہل بیت کے غلامانِ خانہ زاد ہیں، ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ کہ خدا نخواستہ ان کی حمایت بے جا کریں، مگر ہاں اپنی سرکار کی طرف داری اور ان کا الزام بدگویاں سے برنی رکھنا منظور ہے کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبطِ مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے حسبِ بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختتامِ مدت میں معرکہ جنگ میں چھپا رکھ دیے اور ملک امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ العیاذ باللہ۔ کافر یا فاسق فاجر یا ظالم جائر تھے، تو الزام تو حضرت امام حسن پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبارِ مسلمین و انتظامِ شرع و دین بہ اختیارِ خود ایسے شخص کو تفویض کر دیا اور خیرِ خوائیِ اسلام کو۔ معاذ اللہ۔ کام نہ فرمایا۔ اگر مدتِ خلافتِ مسلم ہو چکی تھی اور آپ بادشاہت منظور نہیں فرماتے، تو صحابہ حجاز میں کوئی اور تابعی علم و نسق و دین نہ رکھتا تھا جو انہیں کو اختیار کیا۔ حاشا اللہ، بل کہ یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی ہے کہ حضور نے اپنی مہترین کوئی میں ان کے اس فضل کو پسند فرمایا اور ان کی حمایت کا تمہید فرمایا کما فی صحیح البخاری۔“

ترجمہ: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درجہ ان سب (حضرات عشرہ مبشرہ و وزیر و طلحہ) کے بعد ہے اور حضرت مولیٰ کے مقام رفیع و شانِ ملیح تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن میں ہزاراں ہزار رہوار برق کردار صبار فاقہ تھک رہیں اور قطع نہ کر سکیں، مگر فضلِ صحبت۔ ہم تو بجز اللہ سرکار اہل بیت کے غلامانِ خانہ زاد ہیں، ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ کہ خدا نخواستہ ان کی حمایت بے جا کریں، مگر ہاں اپنی سرکار کی طرف داری اور ان کا الزام بدگویاں سے برنی رکھنا منظور ہے کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبطِ مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے حسبِ بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختتامِ مدت میں معرکہ جنگ میں چھپا رکھ دیے اور ملک امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ العیاذ باللہ۔ کافر یا فاسق فاجر یا ظالم جائر تھے، تو الزام تو حضرت امام حسن پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبارِ مسلمین و انتظامِ شرع و دین بہ اختیارِ خود ایسے شخص کو تفویض کر دیا اور خیرِ خوائیِ اسلام کو۔ معاذ اللہ۔ کام نہ فرمایا۔ اگر مدتِ خلافتِ مسلم ہو چکی تھی اور آپ بادشاہت منظور نہیں فرماتے، تو صحابہ حجاز میں کوئی اور تابعی علم و نسق و دین نہ رکھتا تھا جو انہیں کو اختیار کیا۔ حاشا اللہ، بل کہ یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی ہے کہ حضور نے اپنی مہترین کوئی میں ان کے اس فضل کو پسند فرمایا اور ان کی حمایت کا تمہید فرمایا کما فی صحیح البخاری۔“

پیش از کتاب...

پچھلی صدی کی ناصیت و خارجیت نے دیوبندیت کی کوکھ سے جنم لیا اور تفضیلیت و رافضیت نے سُنیت کی گود میں آنکھ کھولی ہے۔ اس خام پیداوار نے ماسوا اپنے گھر کو بدنام کرنے کے کچھ نہیں کمایا۔ ان میں ایک کا فساد ایک سے بڑھ کر ہے اور دونوں آج تک اپنے اپنے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکے، کیوں کہ اُمت کے سوا و اعظم نے انھیں ہر دور کی طرح پچھلی صدی میں بھی قطعاً مسترد کیا ہے۔ ان کی اندرونی حالت دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے وجود سے مہانی دین کو تزلزل لاحق ہونے کا خطرہ ہے، بل کہ دقیقہ رس اور نکتہ رخ حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ ناصبیہ کے نشانات صرف کتابوں کے اوراق پر موجود ہیں اور تفضیلیہ اب بھی جہالت کا ڈھکوسلا بن کر مبرزین علم کے سامنے شرماتا پھرتا ہے۔ غرض کہ ہر دو طبقوں میں ایسے لوگوں کو خاص پزیرائی نہیں مل سکی اور یہ صرف خدائے رحمن کا فضل و احسان اور علمائے اُمت کے نعرہ حق کا اثر ہے۔ تاریخ میں آج تک جو فتنہ بھی اٹھا علمائے حق نے اپنی جاں سوزی مول لے کر ملت کے فرد فرد کو بد عقیدگی کی آگ سے بچایا ہے اور ان حضرات القدس کا یہ قربانیاں رائگاں نہیں گئیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے جب تک ان ایسے علمائے ربانین و رحمانین کا وجود باوجود سلامت ہے، پس پائی اور ہزیمت ایسے فتنوں کا بڑھ بڑھ کے استقبال کرے گی۔

رواں صدی کے اعتقادی منظر نامے کو سامنے رکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ اسی فاسد مواد کے بقیہ جرثومات پھر سے پیدا ہو چکے ہیں۔ اور وہ اپنے بااثر وسائل کو کام میں لاتے ہوئے اپنے انکار کو فروغ دینے میں کافی سرگرمی بھی دکھا رہے ہیں۔ الحمد للہ علمائے کرام ان فتنوں کو روکنا اور ان میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک سنی قوم کا حضورؐ نے جو نعرہ دیا ہے اس کے لیے کچھ عرصہ اور صحت کرنی پڑے گی، ہرگز ہم ہرگز ہرگز اس نعرے کو آواز پہنچانی ہوگی اور مسلسل اس تحریک کو جاری رکھنا ہرگز آواز پہنچانی ہوگی۔

حاطین سے بچنے کا شعور پیدا کرنا ہوگا۔ ان حضرات کی طرف سے جو نعرہ دیا گیا ہے اس کا

گا۔ رافضی اور خارجی بھول جائیں اور سنیوں کی طرف سے جو نعرہ دیا گیا ہے اس کا

سے تم لوگوں کی حرکتیں اس نعرے کے آواز پہنچانی ہوگی اور مسلسل اس تحریک کو جاری رکھنا ہرگز آواز پہنچانی ہوگی۔

اپنے معاویہ بنی ہاشمیہ کے خلاف جو نعرہ دیا گیا ہے اس کا

تفضیلیہ کا

ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق!

انفصیت کو کچھ چھوٹ ملی، تو ان کی چرب زبانی اس حد تک پہنچ گئی کہ ذرا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کی بات ہو جائے تو ان کے لیے یہ صدمہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ بے ساختہ گہ اٹھتے ہیں: اگئی، چھوڑیے بھی! کیا ضرورت ہے ایسے بیانات کی!! جانے دیجیے! کچھ نہیں جاتا آپ کا، اور بھی تو کتنے موضوعات ہیں جن پر بات ہونی چاہیے۔ اور بھی کئی قسم کی لن ترانیاں دکھاتے ہیں۔ دوسری طرف بیخ تن اہل بیت کی شان میں وہ غلو کہ حد نہیں۔ یہی بیماری نواسب کو ہے، حضرت مولانا تفسی یا حضرات اہل بیت حسنین رضی اللہ عنہم کا ذکر آجائے تو ان کو مفت میں رخص و تشیع کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ادھر یزید پلید عدید بے دید کو بھی کوئی اچھے لفظوں سے یاد کرے، انھیں نصب و خروج کا خطرہ تک نہیں گزرتا، بل کہ یہ لوگ تو خود اسے امیر اور خلیفہ کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ بس ان دونوں انتہاؤں سے حذر چاہیے، اور درمیانی راہ جو کہ سنت و جماعت والوں کی ہے، پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔

صحابہ کرام علی الخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تحفظ ناموس کے لیے ہمیں یہ تحریک کیوں چلانی پڑی؟ اس کے محرکات و اسباب کی چند جھلکیں ہم پیش کرتے ہیں۔

یہ وقت ہے کہ زمانے پہ آشکار کریں! وہ راز خاص کہ حال ہیں جس کے یہ رگ و پے

(عرشِ یسائی)

اور یہ نمونے صرف اہل سنت بریلوی حضرات کے ہیں، باقی طبقات سے بھی اگر شمار کیے جائیں اور ان کی تفصیل لکھی جائے تو کئی دفتر جمع ہو جائیں۔ راقم کے مشاہدہ سے گذشتہ چند سال سے جو باتیں آرہی ہیں، یہاں اسی ترتیب سے پیش کی جائیں گی۔ جس سے اس امر کا وضوح بھی ہو جائے گا کہ خطرناک سوچ کے مظاہر مرابطانہ میں پھیلائی جا رہی ہے اور اس کے ازالہ کے لیے کئی کئی محکمات و ادارات کے حکام کو بے اختیار ضرورت ہے۔

انہی دنوں میں مولانا محمد رفیع صاحب نے مولانا محمد رفیع صاحب نے مولانا محمد رفیع صاحب نے

مولانا محمد رفیع صاحب نے مولانا محمد رفیع صاحب نے مولانا محمد رفیع صاحب نے

مولانا محمد رفیع صاحب نے مولانا محمد رفیع صاحب نے مولانا محمد رفیع صاحب نے

والوں کو ”فتنہ گر ملاً“، ”یزیدی ٹولہ“، ”خارجی الذہن“، ”حب المل بیت کے مخالف“ وغیرہ قرار دیا۔ اور یہ سب انہوں نے کہا تو کسی اور کو نہیں، سنی بریلوی بھائیوں کو کہا۔ اتنی تواضع کرنے کے بعد وہ گویا ہوئے کہ ایسے لوگوں کو اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کر نکال دو!!

طاہر القادری صاحب کا دل عیسائیوں جن کے کفر پر نصوص قطعیہ شاہد ہیں، کی محبت سے اتنا پد ہو چکا ہے کہ اُس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی محبت کے لیے ذرا بھی جگہ باقی نہیں رہی ہے، البتہ وہ ہر سال کرسمس ڈے کو خوب انجوائے کرتے ہیں، حتیٰ اپنے چہیتے عیسائی بھائیوں کے لیے مسجد کے دروازے تک کھول دیتے ہیں۔ طاغوت کے پیروکاروں سے اس حد تک اُنسیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اتنا تنفر! ٹف ہے!!

خیر۔ اُن کے اس بیان کی باقی سب باتیں تو ہماری سمجھ میں آتے گئیں، مگر یہ بات اب تک ہمارے لیے ناقابل فہم رہی ہے جو انہوں نے کافی زور دیتے ہوئے کہی کہ میرے پاس عقائد کی پچاسوں کتابیں ہیں، عقیدہ کی کسی کتاب میں اُن (امیر معاویہ) کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہمیں ہضم ہو گئی کہ آں جناب کے پاس عقائد کی پچاسوں کتابیں ہیں، مشکل یہ ہے کہ قادری صاحب! آپ کو مناقب کے ابواب حدیث کی کتابوں میں تلاش کرنے چاہیے تھے نہ عقائد کی۔ اور اگر جناب کتب عقائد میں دیکھنے پر ہی بہ ضد ہیں، تو انہی پچاسوں کتابوں میں سے جن کتب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کے ابواب ملیں گے انہی میں ٹھوڑا آگے بھی دیکھ لیں، آپ کو مناقب امیر معاویہ کے باب بھی نظر آجائیں گے۔ اور اگر چند ایک کتب میں اس کے برعکس ہو بھی تو یہ قاعدہ یاد فرمائیں اعدم الذکر لا یستلزم عدم الشیء۔

منہاج القرآن لاہور کے مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی نے جب ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پر کتاب تصنیف کرنی شروع کی، تو طاہر القادری صاحب نے انہیں اس صالح کام سے ٹوک دیا۔ یہ روایت مجھ تک میرے والد گرامی حضرت علامہ مفتی غلام حسن قادری مدظلہ سے پہنچی ہے جو ہزاروی صاحب موصوف کے شاگرد ہیں۔

ایک بات اور۔ کہ طاہر القادری صاحب کی شروع دن سے شہرت مذہبی رنگ کی ہی رہی ہے۔ ان کی باتوں کو اکثر لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے، مگر فکر اس وقت دامن گیر ہوئی ہے جب اُن کے جیلے متوالے انہیں دُنیا کا سب سے بڑا عالم ماننے پر تیار جاتے ہیں۔ سوچئے والی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے ایسی کوشش پاتیں کرنا اُن کا محبوب مشغلہ ہے کہ اُن کی شہرت مذہبی رنگ کی ہی رہے۔

ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اُن کے اندر کا بخار ہے یا وہ کسی کے اشارے پر یہ سب کچھ کرنے اور کہنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ خیر، حقیقت جو بھی ہے اللہ عز شانہ اُس سے خوب باخبر ہے۔ ویسے اب اُن کی حالت قرآن مجید میں مذکور اُس شخص کے مشابہ ہو چکی ہے جس کے متعلق اللہ جل شانہ فرماتا ہے:

و اتل علیہم نبا الذی اتیناہ ایتنا فانسلخ منها فاتبعہ الشیطن فکان
من الغاوین، و لو شئنا لرفعناہ بہا و لکنہ اخلد الی الارض و اتبع
ہواہ فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث

(الاعراف: ۶-۱۷۵) (ترجمہ "عرفان القرآن" سے ملاحظہ ہو!)

۵- مولانا محمد بر خوردار ملتان کی کتاب "غوثِ اعظم" حال ہی میں زاویہ پہلی شرز، لاہور سے چھپی۔ اس کا آغاز نبی کریم ﷺ کے ذکر مبارک سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے حالات ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور خاص طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ذکر پاک میں مصنف نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسے حیا سوز اور ظلمت آمیز جملے لکھے ہیں جنہیں پڑھ کر کسی بھی سچے مسلمان کا ایمان زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ عبارات ہم اپنے رسالہ "زندہ خراب حال" میں نقل کر چکے ہیں، فمن شاء فلیرجع الیہ۔ مولوی بر خوردار ملتان نے آج تک اہل سنت کے علمی حلقوں سے "حاشیہ نیراس" کی بہ دولت خاصی داد وصول کی ہے۔ لوگ انہیں اہل سنت کا بڑا عالم گمان کیا کرتے تھے، شاید ہزار میں سے کسی ایک کو بھی اس شخص کے رافضیانہ نظریات کی خبر نہیں تھی۔ ہم قاری ظہور احمد اسد گولڑوی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جن کی تحریک پر "غوثِ اعظم" والی کتاب شائع کی گئی جس نے کم از کم اُن کی تصدیق ہماری طرح کا پورا چہرہ تو نمایاں کر دیا ہے۔

۶- مولانا محمد بن شاہ بخاری نے چند دن پہلے عثمان مسجد، اسلام پورہ، لاہور میں تقریر کی۔ اس تقریر کی ایک کچھ ساریوں نے بتایا کہ اُن کی کئی باتوں سے اہل علاقہ پریشان ہیں، علماء

میں سے اس تقریر کی جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بڑا ہی بے

عزت و احترام سے خطاب کیا گیا، مولانا نے "غوثِ اعظم" (غوثِ معاذ اللہ)۔

میں سے اس تقریر کی جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بڑا ہی بے

عزت و احترام سے خطاب کیا گیا، مولانا نے "غوثِ اعظم" (غوثِ معاذ اللہ)۔

میں سے اس تقریر کی جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بڑا ہی بے

و من یکن یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الہاویہ

(نسیم الریاض: علامہ شہاب الدین خفاجی، ج ۳ ص ۵۲۵)

مولانا مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب (خانے وال) نے چند سال قبل ڈیرہ غازی خان میں ایک تقریر کی تھی، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بے احتیاطی سے کئی باتیں نکل گئیں۔ اُن سے ۲۶/۲۹ دسمبر کو فون پر بات ہوئی، تو اُنھوں نے سابقہ کئی باتوں سے اپنا رُجوع کرنا بیان کیا، مگر ابھی تک اُن کا متعین موقف تحریری صورت میں سامنے نہیں آسکا۔ توقع ہے کہ وہ اس نازک مسئلے میں اپنا دو ٹوک نظریہ جلد سے جلد شائع کریں گے۔ وباللہ التوفیق!

مولانا محمد حنیف قریشی (راول پنڈی) کے چند غیر محتاط جملے بابت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مشہور ہو گئے تھے۔ اس معاملے میں اُن کی وضاحت بھی موجود ہے اور ان کے قریبی ساتھیوں سے معلوم پڑا ہے کہ اب وہ اس سے لائق ہیں۔

علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب (ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان) کے حوالے سے بھی کئی باتیں گردش میں ہیں۔ شنید ہے کہ اُنھوں نے علما کی ایک مجلس میں اپنی سابقہ باتوں سے رُجوع اور توبہ کر لی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو!

یاد رکھیں! جب بھی کچھ لوگ بے دھیانی میں یا جاننے کے باوجود صحابہ کرام ایسی بڑی ہستیوں کے بارے میں نامناسب باتیں کر جاتے ہیں، تو جواباً مصلحتاً کچھ لوگوں کو اُن کی ذاتیاتی سرزنش کر کے ان کی غیرت کو اشتعال دلا کر اُنھیں یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ جیسے آپ حضرات صحیح عام میں ان جلیل القدر شخصیات کی عزتیں اُچھالتے ہیں جس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور بلاریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، تو چلو آپ کا طرف بھی ماب لیتے ہیں، ذرا دیکھیں تو سہی کتنے طوفان سمو سکتے ہیں آپ اس میں اللہ! جن حضرات پر اس قبیل سے کچھ بھی الزام ہوں کہ جن کا علاقہ کسی نہ کسی طرح عقائد سے متصل ہو وہ وضاحت طلبی پر تہیہ اور رنجیدہ نہ ہوا کریں، کیوں کہ جہاں صحابہ کی عزت کا سوال ہو وہاں اپنی نام کی عزت کو قربان کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے دامن کی سیاہی دھونے کا بہترین طریقہ یہ ہے وہ اپنا وضاحتی بیان رُجوعی موقف تحریراً تفصیلاً شائع کر دیں یا کوئی مضمون یا جامع مضمون کتبلی صورت میں شائع کر دیں۔ اگر طباعت کی بابت وہ کسی قسم کی رکاوٹ محسوس کریں تو ہمارے ادارے سے رجوع کریں!

ان شاء اللہ اہل سنت کی موید تحریریں ان کے شایان شان شائع کی جائیں گی۔

ایک خوش گپی کی تجزی

تفصیلت کو دعویٰ ہے کہ فریض گیتی پر ان کے سوا اہل بیت رسول (پنج تن) کی کما حقہ منقبت سرائی کسی فرد بشر کے لیے ممکن نہیں ہے اور صحابہ تو ویسے ہی ان کے موضوع سے خارج ہیں۔ اور یہی لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کا اکلوتا وارث سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسے دعوے اور اس سوچ پر انھیں نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ کیوں کہ ایسے خیالات ان کی صحت کے لیے ہرگز اچھے ثابت نہیں ہو سکتے۔ ایسے خوش خیال حضرات کو ہمارا پیغام ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت و رفعت اور ان کے دفاع کے لیے تو ہم کام کی ابتدا تو کر ہی دی ہے۔ عن قریب ہم حضرات اہل بیت کے فضائل و مناقب اور ان کے دفاع میں بھی کام شروع کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے معاملے میں غلو کرنے والوں کی بھی صحیح طرح سے خبر لیں گے۔ ہم ازواج رسول، پسران رسول، بنات رسول، عترت رسول، اقربائے رسول وغیرہم من اہل البیت پر باضابطہ اول تا آخر تحقیقی کام منظر عام پر لائیں گے، ان کے دن منائیں گے، ان کے نام کی محافل کرائیں گے، ان کے ناموں سے شعبہ جات کو منسوب کریں گے وغیرہ۔ اس لیے کہ ان سب کے بغیر یہ حلقہ قدسیاں نامکمل رہتا ہے۔

اور ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لی جائے! اول تو ہم کسی کو راستہ نہیں دیں گے، لیکن اگر کسی ناموسی یا رافضی نے اس کش مکش کی آڑ لے کر اپنے مطلب کی فضا بنانے کی جسارت کی، تو یاد رکھو اس سے پہلے ہمارا سنگ بار قلم اس کی گناہگار تحقیق کو رجم کرنا نظر آئے گا۔ نہ ہمیں رفس و تفصیل قبول ہے اور نہ خروج و نصب منظور۔ ان دونوں کا استیصال اہل سنت و جماعت کا طریق ہے اور یہی ہمارا مسلک ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہ موت دے!!

معاویات

”دارالاسلام“ نے حضرت سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جملہ موضوعات کو ”معاویات“ کے نام سے لکھ کر اس مضمون کے تمامی سٹی تحریری و تحقیقی کام کو شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس مضمون کا ادارہ ہے (۱) ”میں ہو معاویہ؟“ قاری محمد لقمان کی تصانیف کا ادارہ ہے۔ اس مضمون کے ادارہ کے چھپنے کے لیے سال ۲۰۱۳ء جنوری میں ”دارالاسلام“ نے ”معاویات“ کے نام سے لکھ کر اس مضمون کے تمامی سٹی تحریری و تحقیقی کام کو شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس مضمون کا ادارہ ہے (۱) ”میں ہو معاویہ؟“ قاری محمد لقمان کی تصانیف کا ادارہ ہے۔ اس مضمون کے ادارہ کے چھپنے کے لیے سال ۲۰۱۳ء جنوری میں

رضی اللہ الجواد الجلیل عنہ“ (۲۰۱۳ء) کی طباعت سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ (۷) ”البشارات العالیہ لمن احب سیدنا امیر معاویہ“ معروف بہ ”مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ“: مولانا شفقات احمد نقشبندی مجددی زید علمہ و عمرہ، کی شان دار اشاعت بھی وقوع میں آچکی ہے۔ اب کے بار تازہ ترین تحفہ جو ہم پیش کریں گے اس کا نقشہ کچھ یوں ہو سکتا ہے:

- ۸- شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ.....: علامہ ابو محمد سید ویدار علی شاہ قادری محدث الوری
 - ۹- سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ: محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری چشتی
 - ۱۰- فضائل امیر معاویہ / عماد الاسلام در ذکر امیر شام: مولانا ذکیل احمد سکندر پوری
- یہ رسالہ تا وقت تحریر دریافت نہیں کیا جاسکا۔ پہلا نام ”مرآة الصانف“ ص ۲۳۷ سے لیا گیا ہے اور ناشر مطبع مجبائی، دہلی لکھا ہے۔ جب کہ دوسرا نام پروفیسر اقبال مجددی صاحب نے فاضل سکندر پوری کے ”رسائل در دفاع“ کے مقدمہ میں ص ۱۰ پر ذکر کیا ہے۔
- ۱۱- فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ: علامہ قاضی غلام محمود ہزاروی
 - ۱۲- حیات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ: پیر غلام دستگیر نامی
 - ۱۳- شخصیت جناب امیر معاویہ (اختصار مناقب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ): علامہ شفقات احمد نقشبندی
 - ۱۴- فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مخالفین کا محاسبہ: مولانا محمد صدیق ضیا نقشبندی
 - ۱۵- مناقب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ: مولانا ابوالکرم احمد حسین قاسم حیدری رضوی
 - ۱۶- حضرت علی و امیر معاویہ کے درمیان جنگ کیا تھی؟ (ماخوذ از صحابہ کرام کی حقانیت): علامہ محمد شہزاد ترائی
- یہاں ان کتب کی فہرست بھی پیش خدمت ہے جو مسلسل چھپ رہی ہیں اور مارکیٹ میں دست یاب ہیں اور انہیں مکرر چھاپنے کی چنداں حاجت نہیں، تا آن کہ کسی کی طباعت ملتوی ہو جائے:
- ۱۷- دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ: مولانا محمد علی نقشبندی (جلد ۲)
 - ۱۸- النار الحامیہ لمن ذم المعاوہ: مولانا محمد نبی بخش حلوانی
 - ۱۹- امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک نظر: مفتی احمد یار خان نعیمی
 - ۲۰- سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہل حق کی نظر میں: سید محمد عرفان شاہ شہیدی
 - ۲۱- امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کے جوابات (صرف عمان من مغان معاویہ بن ابی سفیان): علامہ ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی
 - ۲۲- حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ: مولانا مفتی فضل الدین نقشبندی
 - ۲۳- حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ: پیر محمد مقبول احمد سرور

ان میں بڑے حجم کی کتابیں علاوہ اور مختصر ضخامت کی مجموعہ کی شکل میں مختلف اداروں سے شائع کروائی جائیں گی۔ ان کے علاوہ (۲۳) القول الرضی: مخدوم محمد ابراہیم ٹھٹھوی نبیرہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی ^{رحمۃ اللہ علیہ} اور (۲۵) حلم معاویہ: امام ابن ابی الدنیا ^{رحمۃ اللہ علیہ} نیز (۲۶) نظیر البیان: علامہ ابن حجر کی ^{رحمۃ اللہ علیہ} کے اردو تراجم جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے! یہ صرف مطبوعہ اردو مواد کی فہرس ہے، غیر مطبوعہ کم یاب اور عدم دست یاب یا عربی و دیگر زبانوں کی کتب اور اہل سنت کے علاوہ دوسرے مکاتب کے اہل قلم کی نگارشات کی فہرست کا یہاں اندراج نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازاں یونیورسٹی مقالے بھی ہیں، چونکہ اس وقت اکثر جامعات کے مقالات کی فہارس ہماری رسائی میں نہیں ہیں۔ لہذا کافی معلومات نہ ہونے کے باعث ہم یہاں ان کی تفصیل دینے سے قاصر ہیں۔ ان شاء اللہ العظیم العظیم کسی اہم مقالے کی اشاعت کے ساتھ وہ سلک مرزا رید زینت قرطاس بنا کی جائے گی۔

ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی
اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

ترکِ رضوی

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پاسبان عفتتو اہل بیت وکیل اصحاب رسول سیدنا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے ۳ رسائل در فضائل حضرت امیر المسلمین سیدنا معاویہ ^{رضی اللہ عنہ} تصنیف فرمائے ہیں۔ ان رسائل کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ البتہ ان کی نشان دہی آپ کی ذاتی تحریرات سے ہوتی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں:

۱- البشیری العاجلہ من تحف اجلہ (۱۳۰۰ھ)

۲- الاحادیث الراویۃ لمدح الامیر مطوبہ (۱۳۰۳ھ)

۳- عرض الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام

۴- ذب الامراء والاعلیٰ فی باب الامیر مطوبہ (۱۳۱۲ھ)

یہ رسائل حضرت امیر کے یہ رسائل اگر عالم کے کسی گوشے میں سلامت رہیں تو ان کی اشاعت سے امت مسلمہ کو بڑی برکت ملے گی۔ اس کی تحریک کے برکت سے ایک دن ہم ان کے اشاعت کے لیے کوشش کریں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر کام میں توفیق عطا فرمائے۔

مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی ^{رحمۃ اللہ علیہ} اور مخدوم محمد ابراہیم ٹھٹھوی ^{رحمۃ اللہ علیہ} کی کتب سے

کرم عظیم شامل حال رہا تو بہت جلد یہ مضمون طبع ہو جائے گا۔
 رضا کے رسائل کی یہ دریافت رضا فرشتی کا وعدہ کرنے لیکن اُن کے عقائد سے انحراف
 کرنے والوں کے گھروں میں کہرام مچا دیں گے، جس طرح کہ ”مطلع القمرین“ کی رُو نمائی نے
 ان کے آنگن میں جل چلی مچا دی تھی۔ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ۔

اعتنانِ باطنیان

حضرت امیر المؤمنین ملک المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب و دفاع میں رسائل کے اس مجموعہ کی
 اشاعت میں درج ذیل احباب نے مرکزی تعاون فرمایا۔

مولانا سید شاہ حسین گرویزی صاحب نے حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ کا ترجمہ چھاپنے کا موقع
 دیا۔ اور فضیلۃ الشیخ مولانا سید الحق محمد عاصم قادری رحمۃ اللہ علیہ (بدایوں، ماٹھریا) اس کی کمپوزنگ فراہم کی اور دیاچہ بھی تحریر فرمایا۔
 علامہ محمد اعظم سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ پرہاروی کے رسالہ کا ترجمہ طبع کرنے کا اذن عطا فرمایا۔ اور جناب عبداللہ
 قادری صاحب نے ترجمہ کا قدیم نسخہ فراہم کیا۔

حضرت پیر نسائیں علامہ غلام رسول قاسمی زید کرمہ (سرگودھا) نے اپنے رسالہ کو چھاپنے کی اجازت مرحمت
 فرمائی اور آپ کے حکم پر پیر اور طارق سعید قادری صاحب نے کمپوزنگ بھی ارسال فرمائی۔
 مولانا عبداللہ ٹھکی رحمۃ اللہ علیہ (جمعیت اشاعت، اہل سنت، کراچی) نے نہایت کم وقت میں شیخ محمد حیات سعیدی کے
 رسالہ کا ترجمہ کیا اور متن و ترجمہ کمپوز کر کے بھیج دیا۔

حافظ اعظم عباس شمس سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ محمد عبدالرشید تھکوی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کی کمپوزنگ فراہم کی۔
 اور حکم اسلام کنز اعلیٰ سہد الشیخ حضرت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب (امیر ادارہ صراطِ مستقیم
 پاکستان) نے ۵ جنوری ۲۰۱۳ء کو ”شان امیر معاویہ“ کی بار ”منعقد کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی میانت و ناموں کی ایک نئی
 روایت ڈالی ہے جس نے ہم ایسوں کو کام کرنے کا حوصلہ بخشا۔

فلک نے بھی دیکھے ہیں تیرے سے طور کہ اپنے کیے پر بیجاں نہیں (آرزو)

یہ کتاب بھی اسی مبارک موقع کی حشمت و درخشانی کی امداد کی لیے شائع کی جا رہی ہے۔

علامہ قاری محمد لقمان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرحلہ وار تشویق اور مشارت نے بڑا کام کیا۔

خیر اختر حسن محمد زہد قادری کو اللہ شاور کے انہوں نے مابعدیت کی خواہش پر مولانا عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی

محمدی اہام اللہ علیہ کی کتاب اپنے ادارے عدالتی پبلی کیشنز، لاہور سے چھاپ دی ہے۔ اللہم زدو فوہا

نام: محمد رضا حسین قادری

مدیر ادارہ اسلام آباد

پیم اڈل میں حضرت جانا کی مجلس میں شریک ہوئے

مجلد ۱۸، نمبر ۱۲۳، ۱۲۳۳ء کی پوری ۲۰۱۳ء

رسالہ فی فضل معاویہ رضی اللہ عنہ

مصنف علامہ محدث فقیر شیخ محمد حیات سندھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1163ھ)
مترجم: مولانا محمد عبداللہ نسیمی سندھی

بسم اللہ الرحمن الرحیم -

امام احمد نے اپنی سند میں روایت کیا ہے ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللهم عليه الكتاب والحساب وقره العذاب.

اے اللہ! معاویہ کو کتاب (قرآن) اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا!

مسند الامام احمد بن حنبل رقم الحديث: 383/27.17152

اور طبرانی نے اوسط میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ

کو حق میں فرمایا:

اللهم اهدنا بالهدى وجنبه الردى واغفر له في الآخرة والاولى.

اے اللہ! اسے ہدایت کے طرف رہ نمائی فرما، اور بلاکت سے بچا، دنیا اور آخرت

میں اس کی مغفرت فرما دے! (المعجم الاوسط رقم الحديث: 498/1.1838)

اور طبرانی نے تھمہ بحالی کے ساتھ روایت کی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اشهد ان معاوية امر كره فانه قوي امين.

میں اہل بیت میں معاویہ (رضی اللہ عنہ) کو گواہ بناؤ، بے شک وہ طاقت ور اور امانت دار ہے۔

المعجم الاوسط رقم الحديث: 483/8.3507 مسند الشاميين رقم الحديث: 161/2.1110

اور طبرانی نے تھمہ بحالی میں فرمایا ہے: بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

اللهم علمه الكتاب والحساب ومكنه في البلاد وقه سوء العذاب.
اے اللہ! معاویہ کو کتاب (قرآن) اور حساب کا علم عطا فرما، اور اسے شہروں کی
حکومت عطا فرما، اور اسے بڑے عذاب سے بچا۔

(المعجم الکبیر، رقم الحدیث: 18.628/252)

اسی طرح طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
میں حاضر ہوئے۔ عرض کی:

یا محمد استوص معاویة فانه امین علی کتاب اللہ ونعم الامین هو۔
یا رسول اللہ! معاویہ کے حق میں وصیت فرمائیے، بے شک وہ اللہ کی کتاب کے

امین ہیں اور عمدہ امین ہیں۔ (المعجم الکبیر، رقم الحدیث: 73/3.3902)

اسی طرح طبرانی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اللہ ورسوله یحبان معاویة۔

بے شک اللہ اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔

(مجمع الزوائد کتاب المناقب باب ما جاء فی معاویة بن ابی سفیان، رقم الحدیث: 441/9.15923)

اسی طرح طبرانی نے عوف بن مالک سے روایت فرمائی ہے کہ بے شک انہوں نے

خواب میں دیکھا کہ معاویہ اہل جنت میں سے ہیں۔ (المعجم الکبیر، رقم الحدیث: 307/18.686)

اسی طرح طبرانی نے اعمش سے روایت کی ہے کہ اگر تم معاویہ کو دیکھتے تو البتہ ضرور کہتے کہ یہ

مہدی ہیں۔ (المعجم الکبیر، رقم الحدیث: 308/18.691)

اور طبرانی نے مضبوط سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

قتلای وقتلی معاویة فی الجنة۔

میرے اور معاویہ کے درمیان جنگ کے مقتولین جنتی ہیں۔

(المعجم الکبیر، رقم الحدیث: 307/18.688)

اسی طرح طبرانی نے صحیح رجال کی سند کے ساتھ ابو دردا سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ رسول اللہ کی نماز

کے مشابہ نماز پڑھتا ہو۔ (مسند الشامیہ، رقم الحدیث: 168/1.282)

امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ (ابن عباس رضی اللہ عنہما) نے معاویہ کے حق میں فرمایا: بے شک یہ فقیہ (مجتہد) ہیں اور آپ نے نبی کریم ﷺ کی محبت پائی ہے۔

(صحیح البخاری کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ باب ذکر معاویہ رقم الحدیث: 2.3764/479)

اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں:

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔

(صحیح البخاری کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ باب ذکر

مناقب الحسن والحسين رقم الحدیث: 2.3746/476)

پس تحقیق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی جماعت اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور آپ کی جماعت کے درمیان صلح واقع ہوئی ہے۔ پس یہ نبی کریم ﷺ کے طرف سے سچی گواہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کی جماعت اسلام پہنچی۔

اسی طرح امام مسلم نے روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَمْزُقُ مَارِقَةً عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتُلُهَا أَوْلَى الْكُفَّارِ فِتْنَتَيْنِ بِالْحَقِّ.
مسلمانوں کے تفریق کے وقت دو جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس فرقہ کو قتل کرے گی۔

(صحیح مسلم کتاب الزکاة باب ذکر الخوارج وصفاتهم رقم الحدیث: 3423/475)

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

الْقَرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ.

یعنی دو جماعتوں میں سے جو اس فرقہ کو قتل کرے گی وہ حق کے زیادہ قریب ہوگی۔

(صحیح مسلم کتاب الزکاة باب ذکر الخوارج وصفاتهم رقم الحدیث: 3426/476)

اس میں کہا ہوا ہے کہ قتل کرنے والا گروہ جو تھا وہ جماعت تھی جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی لڑی اور دوسرا گروہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی۔ پس یہ ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی اور ان کی جماعت تھی۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت حق سے

زیادہ قریب تھی۔

اسی طرح ترمذی نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به.

اے اللہ! معاویہ کو ہادی، مہدی اور ذریعہ ہدایت بنا دے۔

یہ حدیث حمن غریب ہے۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان، رقم الحدیث: 4.3842/526)

اسی طرح ترمذی نے عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا: معاویہ کا ذکر بھلائی

کے ساتھ کیا کرو! میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! معاویہ کو ہدایت یافتہ

اور اس کو ذریعہ ہدایت بنا دے!

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان، رقم الحدیث: 4.3843/527)

پس میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ بے شک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ

گمان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں نبی کریم ﷺ کے طرف سے دعا مقبول ہوئی ہے۔ پس

آپ نے حضرت معاویہ کے ذکر کو منع فرمایا، مگر یہ کہ بھلائی کے ساتھ کیا جائے اور اسی طرح یہ اس

کے لیے بھی حکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہے۔

امام بخاری نے ائمہ حرام سے روایت فرمائی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

سے سنا ہے:

أَوَّلُ جَنَّةٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا.

میری امت سے پہلا ملک جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔

ائمہ حرام کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا فِيهِمْ؟

کیا میں بھی اس میں شامل ہوں گی؟

فرمایا:

أَبِي فِيهِمْ.

ہاں! تو بھی ان میں ہوگی۔

پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ
میری امت کا وہ گروہ جو سب سے پہلے شہر قیصر میں لڑے گا اس کو بخش دیا گیا ہے۔
میں پوچھا کہ

أَكْفِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
کیا میں اس گروہ میں بھی شامل ہوں گی؟

فرمایا:

لا
نہیں

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب ما قبل فی قتال الروم، رقم الحدیث: 253/2.2924)
دوسری روایت میں ہے کہ پس وہ اپنے شوہر کو لے کر عبادہ بن صامت کے ساتھ جہاد
کرنے کے لیے نگی۔ یہ پہلے ہیں جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا۔

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب فضل من یصرع

فی سبیل اللہ لساناً فهو منہم، رقم الحدیث: 223/2.2800)

پس آوجہوا کے قول سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، نجات، بخشش اور کامیابی مراد ہے۔ اور یہ
بیوں نہ ہو کہ معاویہ اور اس کی جماعت جو اس جنگ میں شریک تھے ان سب کے لیے جنتی کی
گواہی ہے اور یہ شرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کافی ہے۔

حضرت ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا: معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی
ناک کا وہ غبار جو حضور ﷺ کے ساتھ جہاد کے موقع پر واقع ہوا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے ہزار گنا
افضل ہے۔ (وفیات الاعیان، 3/33)

پس مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ صحابہ سے امیر معاویہ اور ان کے مثل دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم
کا ذکر خیر کرے۔ اور جو صحابہ کا اختلاف مروی ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے۔ ان کا
یہ معاملہ ارحم الراحمین کے سپرد ہے، بے شک وہی مہربان اور معاف فرمانے والا ہے۔

کتاب الرسائل

اختلافِ علی و معاویہ رضی اللہ عنہما

ترجمہ تصحیح العقیدہ فی باب امیر معاویہ

مصنفہ تاج الفحول حضرت شاہ عبدالقادر قادری بدایونی

مترجم: علامہ سید شاہ حسین گردیزی

عنوانات

سبب تالیف	ابتدائیہ: مولانا سید الحق قادری
الجواب	استفتا
صحابہ پر لفظ باغی کا اطلاق	مخاربین کے تین گروہ
دونوں گروہ مسلمان تھے	ائمہ دین کے اقوال
حضرت معاویہ کے لیے وجہ	حضرت حسن کی دست برداری کی اصل وجہ
قطعیت اور ظنیت میں فرق	صحابی کا مرتبہ
خلافت حضرت معاویہ	خلافت میں اختلاف کے وقت خلیفہ کون تھا؟
اختلاف صحابہ	خون بہائیں یا خیر؟ سبب
عمر بن عبدالعزیز کا خواب	امام غزالی کا نقطہ نظر
مولانا جامی پر اعتراض	ایک شبہ کا ازالہ
حضرت معاویہ پر تنقید زندقوں کا کام ہے	امام شعبی پر اعتراض کا جواب
لعنت بیزید	مشاجرات صحابہ میں سکوت کا حکم
تصدیقات غلابے بدایوں	آخری گزارش

ابتدائیہ

حضرت تاج الفحول محبت رسول مولانا شاہ عبدالقادر قادری بدایونی کا شمار تیرھویں صدی میں برصغیر کے اجلہ علما میں ہوتا ہے۔ اپنے زمانے میں آپ امام وقت، مرجع علماء، افتخار زمانہ، کاروانِ سنیہ کے علم بردار اور قافلہ تصوف و سلوک کے سالار تھے۔

آپ کی ولادت بدایوں کے مشہور عثمانی خانوادے میں ۱۷۱۳ھ / ۱۸۳۷ء کو ہوئی، سیف اللہ المسلمول مولانا شاہ فضل رسول بدایونی آپ کے والد ماجد اور حضرت شاہ عین الحق عبدالجید قادری آپ کے جد محترم ہیں۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل جد محترم اور والد ماجد کے زیر سایہ طے کیے، معقول و منقول کی اعلیٰ تعلیم استاذ الاساتذہ مولانا نور احمد عثمانی بدایونی اور استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی کی درس گاہوں سے حاصل کی۔ سند الحمد شین الشیخ جمال حنفی مکی سے مکہ مکرمہ میں حدیث سماعت کر کے اجازت اور سند حدیث حاصل کی۔

اپنے والد حضرت سیف اللہ المسلمول سے اخذ بیعت کیا اور آپ کی زیر نگرانی سلوک کی منزلیں طے کیں، تکمیل سلوک کے بعد اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔

والد ماجد کے حکم اور اجازت سے مدرسہ قادریہ کی مسند درس و تدریس کو رونق بخشی، ایک زمانہ آپ کی درس گاہ سے فیض یاب ہوا، حافظ بخاری سید شاہ عبدالصمد سہوانی اور استاذ العلماء علامہ محبت احمد قادری بدایونی جیسے اپنے زمانے کے اجلہ علما آپ کے تلامذہ و مستفیدین میں شامل ہیں۔

احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا جذبہ والد محترم سے ورثے میں پایا تھا، اپنے زمانے میں اٹھنے والے بدعتیہ کی، گم راہی اور گم راہ گری کے تمام فتنوں کے مقابلے میں مسلک اہل سنت اور عقیدہ حق کی حفاظت و دفاع کا فریضہ ایسے حسن و خوبی سے انجام دیا کہ معاصر علماء و مشائخ کی نظر میں آپ کا قرب، آپ سے نسبت اور آپ کی محبت سنیہ کی علامت قرار پائی۔ نور العارفین سیدنا امام الحسن علیہ السلام کی بارہوی فقہ مروی نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

ہوئے منہجین سنیہ کی شاکست محبت مولانا عبدالقادر صاحب مظلوم ہے، ہرگز

عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں آپ کی تصانیف کا ذخیرہ موجود ہے، جس میں بہت سی کتابیں طبع ہو چکی ہیں اور بعض ہنوز غیر مطبوعہ ہیں۔

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء بہ روز اتوار آپ نے وصال فرمایا، درگاہ قادری مجیدی بدایوں میں والد گرامی کے پہلو میں آرام فرماہیں۔

مرتب رسالہ حضرت سید حسین حیدر حسینی میاں برکاتی مارہروی (ابن سید محمد حیدر ابن سید دلدار حیدر ابن سید منتجب حسین) خانوادہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ کے چشم و چراغ تھے، جید عالم، واعظ شیریں بیاں، پاکیزہ فکر شاعر، مصنف اور اپنے خانوادے کی روحانی روایات کے امین و وارث تھے، آپ خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول قادری برکاتی قدس سرہ کے حقیقی نواسے، تاج دار مارہرہ سیدنا شاہ ابوالحسین احمد نوری مارہروی قدس سرہ کے پھوپھی زاد بھائی اور برادر نسبتی تھے، سیدنا شاہ آل عبا بشیر حیدر مارہروی کے والد ماجد اور حضرت سید العلماء و حضرت احسن العلماء کے حقیقی دادا تھے، آپ کی تعلیم و تربیت مدرسہ قادریہ بدایوں شریف میں حضرت تاج الفحول کے زیر سایہ ہوئی، اپنے نانا حضرت خاتم الاکابر کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے نوازے گئے، آپ کا وصال مارہرہ مطہرہ میں ہوا، درگاہ برکاتیہ مارہرہ شریف میں بیرون قبہ چبوترے پر آخری آرام گاہ ہے۔ (تاریخ خاندان برکات و مدائح حضور نور)

آپ کے پرپوتے حضرت سید اشرف میاں برکاتی کے یہ قول:

”آپ خاندان برکات کے پہلے شخص تھے جنہوں نے منبر پر بیٹھ کر وعظ کہا شروع کیا، اس سے پہلے احباب کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کے انداز میں وعظ و تلقین کا رواج

تھا۔“ (اہل سنت کی آواز مارہرہ جلد ۶ ص ۲۲۸، اکتوبر ۱۹۹۹)

اپنے استاذ حضرت تاج الفحول سے خاص عقیدت و محبت رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب مسئلہ میلاد و قیام کے سلسلے میں مولانا بشیر الدین قنوجی نے تاج الفحول کے رسالہ ”سیف الاسلام“ کا رد ”مطرقہ الاسلام“ کے نام سے لکھا تو حضرت حسین حیدر رضا جب نے قنوجی صاحب کے جواب میں ”مصمام الاسلام“ لکھی، اور اپنے استاذ کی طرف سے دفاع کا حق ادا کر دیا، اس عقیدت و محبت کی وجہ نسبت تلمذ کے علاوہ شاید یہ بھی تھی کہ آپ کے نانا اور خیر و مرشد حضرت خاتم الاکابر نے اپنے اخلاف کو وصیت فرمائی تھی کہ دینی معاملات میں حضرت تاج الفحول سے مشورہ کریں اور ان کی رائے پر اعتماد کریں۔ (سراج العارفین ص ۶۹، تذکرہ قادری ص ۱۲۹)

آپ اس وصیت پر سختی سے عمل پیرا رہے، روانفص کے عقائد اور ان سے متعلق دیگر معاملات کے سلسلہ میں جب آپ کو حکم شرعی دریافت کرنا ہوا تو آپ نے حضرت تاج الفحول سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں زیر نظر رسالہ منظر عام پر آیا۔

یہ رسالہ ”تصحیح العقیدۃ فی باب امیر معلویۃ“ فارسی زبان میں محاربین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک سوال کے جواب میں تصنیف کیا گیا، جس کو سید شاہ حسین حیدر صاحب برکاتی مارہروی نے ترتیب دے کر شائع کروایا، پہلی مرتبہ یہ رسالہ مطبع ماہ تاب ہند، میرٹھ سے مارچ ۱۸۷۶ء میں شائع ہوا۔

پاکستان کے حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی چشتی نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور ”اختلاف علی و معاویہ“ کے نام سے محدث سورتی اکیڈمی، کراچی سے شائع کیا۔

۱۹۹۸ء میں تاج الفحول اکیڈمی بدایوں نے اس کو دوبارہ شائع کیا۔ ۲۰۰۹ء میں تاج الفحول اکیڈمی، بدایوں نے حضرت تاج الفحول کے چار رسالوں کا مجموعہ ”رد روانفص“ کے نام سے شائع کیا تھا اس مجموعے میں بھی اس رسالے کو شامل کیا گیا۔ علامہ گردیزی صاحب نے طوالت کے خوف سے رسالے میں موجود عربی و فارسی عبارتیں درج نہیں کی تھیں صرف ان کے ترجمے پر اکتفا کیا تھا، اس تیسری اشاعت میں عربی و فارسی عبارتیں بھی درج کر دی گئیں ہیں اور ترجمے پر بھی نظر ثانی کر لی گئی ہے۔

اس رسالے میں بیان کیے گئے تمام عقائد جمہور اہل سنت کے منتخب عقائد ہیں، انہیں عقائد پر سوادِ اعظم اہل سنت کی بنیاد قائم ہے، ماضی میں بھی خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں سوادِ اعظم کے انہیں عقائد اور اسی مسلک کی مبلغ و ترجمان تھی اور آج بھی اس رسالے میں درج تمام عقائد کی صحت و حقانیت کے اعتراف کے ساتھ اسی مسلک سوادِ اعظم کی تبلیغ و اشاعت اور ترجمانی کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ **فلا حول و لا قوة الا باللہ**

رت قدر و معتد سے دعا ہے کہ اس رسالے کو مفید و نافع اور تاریک دلوں کے لیے نور
عزت کا سامان بنائے۔ مصنف، مترجم اور ناشر کی اس خدمت کو قبول فرماتے ہوئے ان کو اجر

سید الحق کووری

۱۲۳۳ھ / ۲۰۱۲ء دسمبر ۲۰۱۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الكريم الوهاب، و الصلوة و السلام على من اوتى فصل الخطاب، سيدنا و مولانا محمد الشافع المشفع يوم الحساب، و على اله خير ال و اصحابه خير اصحاب و على سائر الاولياء و الاحباب۔

سبب تالیف

جناب رسالت مآب ﷺ کے تمام صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم دین متین کے فرائض و واجبات سے ہے اور ان کے بارے میں خیر کے بغیر کف لسان شرع مبین کے لوازمات سے ہے کیوں کہ صحابہ کرام کی فضیلت سرور انام ﷺ کی احادیث اور خداوند ذوالجلال کی کتاب کی آیات سے ثابت ہے وہ اخبار مؤرخین جو سوائے اعتقاد کی بنیاد ہیں بعض جاہل راویوں اور لعین رافضیوں سے منقول ہیں جن کے باطل ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کو بعض صحابہ کرام سے سوائے عقیدت ہی نہیں ان کے بارے میں استخفاف و اہانت آمیز کلمات استعمال کرتے ہیں اس لیے ہمیں نے صرف دین کے درد اور محبت ایمانی کی بنا پر یہ مسئلہ علمائے اہل سنت کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے جواب لے کر افادہ عام کے لیے اسے طبع کرایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بہتر توفیق عطا فرمائے اور اس کار خیر کا ثواب اس فقیر حقیر کو عطا فرمائے۔ (آمین)

اور اس رسالے کا نام ”صحیح العقیدۃ فی باب امیر المعادیۃ“ رکھتا ہوں اور ناظرین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ دعائے خیر میں یاد رکھیں گے اور غلطی و خطا سے درگزر فرمائیں گے۔

و ما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔

قط

فقیر سید حسین حیدر حسنی قادری بمکاتی مارہروی •

استفتا

سوال: جمہور محققین اہل سنت و جماعت کے مذہب مختار میں محاربین عہد خلافت جناب مرتضوی پر علی الاطلاق حکم کفر صحیح ہے یا نہیں؟

حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کی تعظیم و تکریم کرنا یعنی لفظ ”رضی اللہ عنہم“ ان کے لیے لازم ہے یا طعن و تحقیر سے یاد کرنا اور کوئی شخص ان حضرات کی تحقیر سے اہل سنت سے خارج ہوتا ہے یا نہیں؟

الجواب

محاربین کے تین گروہ:-

جمہور محققین اہل سنت کے مذہب مختار میں جیسا کہ عقائد، احادیث اور اصول کی کتب معتدہ سے ثابت ہے خاتم الخلفاء الراشدین حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے محاربین کے تین گروہ تھے جو کہ اس فتنے میں شامل تھے ان میں سے کسی بھی گروہ کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال ان تین گروہوں میں فرق یہ ہے کہ جنگ جمل کے محاربین کے سربراہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما تھے جو کہ عشرہ مبشرہ سے ہیں اور حضور ﷺ کی زوجہ محبوبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، ان کی غرض جدال و قتال نہ تھی بلکہ مسلمانوں کے حال کی اصلاح پیش نظر تھی، لیکن اچانک جنگ چھڑ گئی، ان تینوں حضرات کا رجوع معتدروایات سے ثابت ہے باوجود اس کے کہ خطائے اجتہادی ایک ثواب کی مستوجب ہے، پھر بھی ان حضرات نے رجوع کیا تو اب جب ان حضرات نے رجوع کر لیا تو ان پر لفظ باغی کا اطلاق حقیقہً درست نہیں ہے۔ جنگ صفین کے محاربین کے سربراہ حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص ہیں [1]۔ یہ دونوں حضرات بھی صحابہ کرام میں سے ہیں یہ بھی اجتہاد میں پڑے اور اپنی غلطی سے بار بار قتل و قتال پر اصرار کرتے رہے اس گروہ نے بھی خطا اجتہاد کی وجہ سے کی لیکن ان کی خطا واجب الانکار ہے۔

[1] یہ دونوں حضرات بھی صحابہ کرام میں سے ہیں یہ بھی اجتہاد میں پڑے اور اپنی غلطی سے بار بار قتل و قتال پر اصرار کرتے رہے اس گروہ نے بھی خطا اجتہاد کی وجہ سے کی لیکن ان کی خطا واجب الانکار ہے۔

صحابہ پر لفظ باغی کا اطلاق :-

ان حضرات پر لفظ باغی کے اطلاق کے بارے میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ ان حضرات پر لفظ باغی کا اطلاق درست ہے، لیکن جمہور اہل سنت کے مذہب میں ان کی تعظیم و تکریم شرف صحابیت کی وجہ سے ضروری و لازمی ہے اس لیے شرعاً وہ بغاوت و خطا جو عہد ا واقع نہ ہوئی ہو فسق و عصیان کو مستلزم نہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ (میری امت سے خطا و نسیان کو اٹھالیا گیا ہے) اس پر شاہد ہے اور صحابہ کرام کی خطائیں معاف ہیں کیوں کہ یہ حضرات نہ تو معصوم ہیں اور نہ ہی معذور بل کہ عند اللہ ماجور ہیں، اس خطا کی وجہ سے ان کی شان میں بے ادبی کرنا اور ان کی تعظیم و تکریم سے رُکنا اہل سنت سے خارج ہونا ہے اور مذہب اہل سنت میں یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اخواننا بغوا علينا (ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی) اس سے زیادہ طعن جناب مرتضوی پر طعن ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل ”احیاء العلوم“، ”یواقیت“، ”شرح فقہ اکبر“، ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“، ”مجمع البحار“، ”صواعق محرقة“ اور ”شفا“ قاضی عیاض میں دیکھنا چاہیے۔

اور وہ جو متاخرین شیعہ و سنی کی بعض کتب مناظرہ میں آتا ہے ان کی بنا تاریخی واقعات اور بہم و جمل الفاظ ہیں جنہیں تسلیم و تنزل کے طور پر سلف کی تصریحات عقائد کے خلاف لکھا گیا ہے اور ان پر اعتقاد کا مدار نہیں ہے۔ جمہور محققین حضرات صوفیہ، محدثین، فقہاء اور متکلمین کا مذہب مختار یہی ہے اور اس کا انکار کھلی گم راہی ہے۔

ائمہ دین کے اقوال :-

یہاں پر بعض ائمہ دین کے اقوال اختصار کے ساتھ نقل کیے جاتے ہیں:

امام عسقلانی ”تقریب العزیز“ میں حضرت معاویہ پر کلام کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان کے بارے میں فرماتے ہیں:

ابن صخر بن حرب بن امیة ابن عبد الشمس ابن عبد مناف الاموی
 ابو سفیان صحابی شہیر اسلم عام الفتح و فات سنة الفین و ثلاثین
 ابوسفیان بن صخر بن حرب بن امیة بن عبد الشمس بن عبد مناف الاموی ابو سفیان
 مشہور صحابی ہیں، فتح مکہ والے سال مسلمان ہوئے۔ ۳۲ھ میں اعلان اسلام کیا۔

علامہ زرقانی "شرح مواہب" میں حضور ﷺ کے کاتبوں کے ذیل میں حضرت ابوسفیان کے متعلق فرماتے ہیں:

اسلم في الفتح و كان من المؤلفات ثم حسن اسلامه و روى عن النبي
عليه السلام و عنه ابنه معاوية و ابن عباس۔

فتح مکہ والے سال مسلمان ہوئے، پہلے مؤلفۃ القلوب میں سے تھے، پھر بہترین مسلمان ہو گئے، احادیث رسول ﷺ کی روایت کرتے ہیں اور آپ سے آپ کے بیٹے حضرت معاویہ اور حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے۔

اور اسی میں ہے کہ

معاوية بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن امیة الاموی ابو عبد الرحمن الخلیفة صحابی اسلم قبل الفتح و كتب الوحي و مات في رجب سنة ستين و قد قارب الثمانين۔

معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن امیة الاموی ابو عبد الرحمن الخلیفہ صحابی تھے۔ فتح مکہ والے سال مسلمان ہوئے، کاتب و وحی بھی رہے۔ ۶۰ھ ماہ رجب میں انتقال فرمایا۔ تقریباً اسی سال عمر تھی۔

امام بخاری نے اپنی تصحیح میں لکھا کہ

عن ابن ابی ملیکة قال اوتر معاوية رضى الله عنه بعد العشاء برکعة و عنده مولی لابن عباس فاتی ابن عباس فقال ای ابن عباس دعه فانه قد صحب رسول الله ﷺ۔

حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ نے عشا کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر پڑھی۔ آپ کے پاس ابن عباس کے ایک غلام بھی موجود تھے جب حضرت ابن عباس شریف لائے تو انہوں نے یہ بات آپ سے بیان کی، اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا: "انہیں چھوڑ دے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں۔"

انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا:

انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا:

انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا:

صحابی و فقیہ ہونا اور آپ پر اعتراض سے رُکنا ثابت ہو گیا۔ حجۃ الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ جو علمائے ظاہر و باطن کے امام ہیں، اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ میں جو کہ فنِ تصوف میں اپنی نظیر نہیں رکھتی فرماتے ہیں کہ

اعتقاد اهل السنة تزكية جميع الصحابة و الثناء عليهم كما اتنى الله سبحانه تعالى و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم و ما جرى بين معاوية و علي كان مبنياً على الاجتهاد۔

اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کو پاک سمجھنا اور ان کی ایسی تعریف و توصیف کرنی جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور جو کچھ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔

امام شعرانی نے اپنی کتاب ”الیواقیت و الجواہر فی بیان عقائد الاکابر“ میں مشائخ کرام کے عقائد حضرت شیخ اکبر کے کلام سے خصوصاً اور دیگر اکابر طریقت کے اقوال سے عموماً جمع کیے ہیں، آپ اس میں آپ فرماتے ہیں:

المبحث الحادی و الاربعون فی بیان وجوب الکف عما شجر بین الصحابة و وجوب اعتقاد انهم ماجورون و ذاک لانهم کلهم عدول باتفاق اهل السنة سواء من لابس الفتن و من لم یلابسها کل ذلک احساناً للظن بهم و حملهم فی ذلک علی الاجتهاد فان تلك الامور مبناهما علیه و کل مجتهد مصیب و ان المصیب واحد و المخطی معذور ماجور قال ابن الانباری لیس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم و انما المراد قبول رواياتهم فی احکام دیننا من غیر تکلف بحث عن اثبات العدالة و طلب التزكية و لم یثبت لنا شی یفدح فی عدالتهم فنحن علی استصحاب ما كانوا علیه فی زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتی یثبت خلافه و لا التفات الی ما یذکره بعض اهل السير فان ذلک لا یصح و ان صح فله تاویل صحیح و کیف یجوز الطعن فی حملة دیننا فنحن لم یأتنا خبر عن لیبنا صلی اللہ علیہ وسلم الا بواسطتهم فمن طعن فی الصحابة طعن فی نفس دینہ فلیجب عند الباب حملة لا

بينهما الخوض في معاوية و عمرو بن العاص و اخر بها و لا يتضى
الاغترار بما نقله بعض الروافض من اهل البيت من كراهتهم فان
مثل هذه المسئلة نزعها دقيق و لا يحكم فيها الا رسول الله ﷺ
فانها مسئلة نزاع بين اولاده و اصحابه رضی اللہ عنہم قال الكمال
بن ابی شریف و ليس المراد بما شجر بين علي رضي الله تعالى عنه
و معاوية رضي الله عنه المنازعة في الامارة كما توهمه بعضهم و
انما المنازعة كانت بسبب تسليم قتلة عثمان كان راي علي ان
تاخير تسليمهم اصوب اذا المبادرة يؤدي الى اضطراب امر الامة و
راي معاوية الى ان المبادرة للاقتصاص منهم اصوب فكل منهما
مجتهد ماجور فهذا هو المراد بما شجر بينهم۔

اکتالیس ویں بحث مشاجرات صحابہ میں خاموشی کے واجب ہونے کے بیان میں۔
اس بات کا اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے کہ وہ عند اللہ ماجور ہیں اور یہ اتفاق اہل سنت
تمام صحابہ عادل و منصف ہیں جو ان فتنوں میں شریک ہوئے یا کنارہ کش رہے اور
ان کے تمام جھگڑوں کو اجتہاد پر محمول کیا جائے ورنہ ان کے بارے میں بُرے گمان
کا حساب لیا جائے گا اس لیے کہ ان امور کا نشان ان حضرات پر عیب جوئی کرنا ہے اور
یہ بات بھی ہے کہ ہر مجتہد مصیب و واجر پائے گا اور قحطی معذور و ماجور ہوگا۔

ابن الاثیر فرماتے ہیں کہ ان کی عدالت سے ان کی عصمت کا ثبوت مراد
نہیں بلکہ اس سے مراد ان کے اثبات عدالت اور تقویٰ و پرہیزگاری کی بحث کے
تکلف میں پڑے بغیر اپنے دین کے سلسلے میں ان کی روایات کو قبول کرنا ہے، اگر
کئی ایسی چیز ہمارے علم میں آئے جس سے صحابہ کی عدالت پر عیب لگ رہا ہو تو
شک ہے کہ ہم ان کی صحبت و رسول کو یاد کریں اور بعض سیرت نگاروں نے جو کچھ
یہ روایات نقل کیں ہے اس لیے کہ وہ روایات صحیح نہیں ہیں اور اگر صحیح بھی
تو ان کی عدالت پر عیب لگ رہا ہے۔

ابن الاثیر فرماتے ہیں کہ ان کی عدالت سے ان کی عصمت کا ثبوت مراد
نہیں بلکہ اس سے مراد ان کے اثبات عدالت اور تقویٰ و پرہیزگاری کی بحث کے
تکلف میں پڑے بغیر اپنے دین کے سلسلے میں ان کی روایات کو قبول کرنا ہے، اگر
کئی ایسی چیز ہمارے علم میں آئے جس سے صحابہ کی عدالت پر عیب لگ رہا ہو تو
شک ہے کہ ہم ان کی صحبت و رسول کو یاد کریں اور بعض سیرت نگاروں نے جو کچھ
یہ روایات نقل کیں ہے اس لیے کہ وہ روایات صحیح نہیں ہیں اور اگر صحیح بھی
تو ان کی عدالت پر عیب لگ رہا ہے۔

کچھ بھی ملا ان کے واسطے اور ذریعے سے ملا تو جس نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی گویا کہ اُس نے خود اپنے دین پر طعن و تشنیع کی۔ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں بل کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں زبان طعن و تشنیع دراز نہ کی جائے اور صحابہ کرام کی اہل بیت پر جو تکبیر بعض زوافض سے منقول ہے اس کی طرف قطعاً توجہ نہ کی جائے کیوں کہ ان حضرات کا یہ جھگڑا بڑا رقیق ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ جھگڑا حضور ﷺ کی اولاد اور صحابہ کے مابین ہے اس لیے اس کا فیصلہ آپ ہی پر چھوڑ دیا جائے۔ علامہ کمال ابن ابی شریف فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین اختلاف کا مقصد حکومت و امارت کا استحقاق نہیں تھا بل کہ اختلاف منازعت کا سبب قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص میں تاخیر کو زیادہ مناسب سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا جلدی سے حکومت میں انتشار و اضطراب پڑے گا اور حضرت معاویہ قصاص میں تعیل زیادہ مناسب سمجھتے تھے۔ دونوں مجتہد عند اللہ ماجور و مثاب ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کا منشاے اختلاف یہی تھا۔

غوثِ اعظم سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی "غنیۃ الطالبین" میں فرماتے ہیں:

و اما قتالہ الطلحة و الزبیر و عائشة و معاویة رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فقد نص الامام احمد رحمة اللہ تعالیٰ علیہ علی الامساک عن ذلك و جمیع ما شجر بینہم من منازعة و منافرة و خصومة لان اللہ تعالیٰ یزیل ذلك من بینہم یوم القیامة كما قال عز من قائل: و نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین و لان علیاً رضی اللہ عنہ کان علی الحق فی قتالہ لانه کان یعتقد صحة امامتہ علی مابینا من اتفاق اهل الحل و العقد من الصحابة و رضی اللہ عنہم علی امامتہ و خلافہ فمن خرج عن ذلك و ناصب حرباً کان باغياً خارجاً علی الامام فجاز قتالہ و من قاتلہ من معاویة و طلحة و الزبیر رضی اللہ عنہم طلبوا ثار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفة حق المقتول ظلماً و اللہین ثلثہ کالوا فی عسکر علی رضی اللہ عنہ

اللہ عنہ فكل ذهب الي تاويل صحيح فاحسن احوالنا الامساك في ذلك و امرهم الي الله عزوجل و هو احكم الحاكمين و خير الفاصلين و الاشتغال بعيوب انفسنا و تطهير قلوبنا من امهات الذنوب و ظواهرنا من موبقات الامور و اما خلافة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه فثابتة صحيحة بعد موت علي رضي الله تعالى عنه و بعد خلع الحسن بن علي نفسه من الخلافة و تسليمها الي معاوية رضي الله عنه لراى راه الحسن رضي الله عنه و مصلحة عامة تحققت له و هي حقن دماء المسلمين و تحقيق لقول النبي ﷺ في الحسن رضي الله عنه ابني هذا سيد يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوجبت امامته بعقد الحسن له فسمى عامه عام الجماعة لارتفاع الخلاف بين الجميع و اتباع الكل لمعاوية لانه لم يكن هناك منازع ثالث في الخلافة و خلافة مذكورة في قول النبي ﷺ و هو ما روى عن النبي ﷺ تدور رحي الاسلام خمسا و ثلثين سنة او ستا و ثلثين او سبعا و ثلاثين و المراد بالرحى في هذا الحديث القوة في الدين و الخمس سنين الفاضلة عن الثلاثين فهو من جملة خلافة معاوية الي تمام تسعة عشرة سنة و شهور لان الثلاثين كملت لعلي رضي الله عنه على ما بينا۔

امام احمد بن حنبل نے حضرت علیؑ، حضرت زبیرؑ، حضرت طلحہؑ، حضرت معاویہؑ اور حضرت عائشہؑ کے ماہین، محلوں، نفرتوں اور دشمنی پر کف لسان کی تفصیل فرمائی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ان باتوں سے قیامت کے دن پاک فرمادے گا جیسا کہ اس کا ارشاد گرامی ہے: و نزعنا ما فی صدورهم من کل ارجاس علی سیرر مطاہلین (اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ ہوگا اسے ہم ان کے دل سے نکال دیں گے اور وہ سیرر مطاہلین بنیں گے) اس لیے کہ ان حضرات کی دشمنی اور نفرتوں پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔

اس کے بعد جس نے ان کی بیعت کا قلابہ اپنی گردن سے اتارا وہ باغی اور امام پر خروج کرنے والا تھا۔ اس صورت میں اس کا قتل جائز تھا اور جن حضرات مثلاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی وہ خلیفہ برحق حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا قصاص طلب کر رہے تھے جن کو ظلماً قتل کیا گیا تھا جب کہ قاتل حضرت علی کے لشکر میں تھے۔ ان دونوں گروہ نے اپنی اپنی جگہ صحیح تاویل اختیار کی، ہمارے لیے اس معاملے میں سکوت سب سے بہتر ہے۔ ان حضرات کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے، وہ احکم الحاکمین اور بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے عیوب سے نفس کی اور گناہوں سے دل کی تطہیر اور موبقات امور سے اپنے ظاہر کو پاک کرنے میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اور رہی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اور حضرت حسن کی خلافت سے دست برداری اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سوچ دینے کے بعد ثابت و درست ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ غور و فکر کے بعد مصلحت عامہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر کے مسلمانوں کو خون ریزی سے بچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پر پورے اتر آئے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امامت واجب ہو گئی اور اس اتحاد و اتفاق والے سال کو "عام الجماعت" (اجتماع کا سال) کہا جانے لگا اس لیے کہ تمام لوگوں نے اختلاف ختم کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا دعوے دار تھا بھی نہیں۔

حضرت معاویہ کی خلافت کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "اسلام کی چکی ۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ سال تک چلتی رہے گی" اس حدیث میں چکی سے مراد دین کی قوت ہے اور تیس سال سے پانچ سال بعد ان سے حضرت معاویہ کے انیس سالہ زمانہ خلافت کے پانچ سال مراد ہیں۔ یہاں کہیں سال حضرت علی کی خلافت تک مکمل ہو چکے تھے۔ یہاں کہیں سال مراد ہیں۔ اسی کتاب میں مزید فرماتے ہیں:

اتفق اهل السنة على وجوب الكف فيما شجر بينهم و الامساك عن مساويهم و اظهار فضائلهم و محاسنهم و تسليم امرهم الى الله عزوجل على ما كان و جرى اختلاف على و طلحة و الزبير و عائشة و معاوية رضوان الله عليهم اجمعين على ما قدمنا بيانه و اعطاء كل ذي فضل فضله كما قال الله عزوجل: و الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ و قال الله: تلك امة قد خلت لهما ما كسبت و لكم ما كسبت و لا تستلون عما كانوا يعملون۔

اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات اور ان کی برائی سے خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے اور ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کرنا اور ان کے تمام معاملات جیسے بھی تھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ضروری ہے۔

حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اختلافات کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے اور ہر صاحب فضل کو اس نے حصہ عطا فرمایا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے:

”اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم کو بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دے، اے ہمارے رب! تو بڑا شفیق ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

”یہ ایک جماعت جو گزر چکی ان کا کیا ان کے سامنے آئے گا اور تمہارا کیا تمہارے سامنے آئے گا اور جو کچھ کہتے رہے ان کی پوچھ گچھ تم سے نہ ہوگی۔“

”توبہ الاہلین“ میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں متعدد احادیث نقل فرمائی ہیں

اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے

اور ان کو بخش دیا ہے

اور ان کو بخش دیا ہے

جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو!

اور ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

و اياكم و ما شجر بين اصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهباً ما
بلغ مد احدهم و لا نصفه۔

میرے صحابہ کے آپس کے اختلاف کے بارے میں خاموش رہو! تم میں اگر کوئی
أحد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو ان جیسا ثواب نہیں پاسکتا بلکہ اس کا نصف
ثواب بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

آپ ﷺ نے مزید ارشاد فرمایا:

لا تسبوا اصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله۔

میرے صحابہ کو دشنام (گالی) نہ دو جس نے میرے صحابہ کو دشنام دی اس پر اللہ کی
لعنت ہے۔

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

طوبى لمن رانى و من رانى من رانى۔

اس آدمی کے لیے خوش خبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور اس شخص کو دیکھا جس نے
مجھے دیکھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں:

ان الله عزوجل اختارتى و اختار لى اصحابى فجعلهم انصارى و
جعلهم اصهارى و انه سيجي اخر الزمان قوم ينقصونهم الا فلا
تواكلوهم الا فلا تشاربوهم الا فلا تناكحوهم الا فلا تصلوا معهم و
لا تصلوا عليهم عليهم حلت اللعنة۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پس انداز میں میرا

مددگار اور رشتہ دار بنایا، عن قریب آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو ان

حضرات کی تنقیص کرے گی۔ خبردار ان کے ساتھ کھانا پکانا نہ کرنا، خبردار ان کے

ساتھ نکاح نہ کرنا، خبردار ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اور نہ ان پر جہاز پڑھنا ان کے

لعنت مسلط ہوگی۔

حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں:

لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة۔

جن لوگوں نے (حدیبیہ کے مقام پر) درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

اطلع الله على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔

اللہ تعالیٰ اہل بدر پر متوجہ ہوا اور فرمایا: میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب جو چاہو کرو!

حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ

اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم۔

میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تو تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتدا کی ہدایت پاؤ گے۔

حضرت ابن بريدة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں:

من مات من اصحابي بارض جعل شفيحاً لاهل تلك الارض۔

میرا جو صحابی جس علاقے میں انتقال کرے گا وہاں کے لوگوں کا شفیح ہوگا۔

حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

جس نے اصحاب رسول کی اہانت میں ایک لکڑی بھی کہا ہو وہ اہل ہوا میں شامل ہے۔

علامہ قاضی عیاض شافعی فرماتے ہیں کہ

و من توقيره ^{سلك} منيهم و بره توقير اصحابه و برهم و معرفة حقهم و

الاطباء بهم و حسن الثناء عليهم و الامساك عما شجر بينهم و

معدلة من هاداهم و الاضراب عن اخبار المؤرخين و جهلة الرواة و

مبطل الشهادة و اليمه عن الفادحة في احد منهم و ان يلصق لهم

بعض ما قال من اجل ذلك كان بينهم من الفتن احسن التاويلات و

بعض ما قال من اجل ذلك كان بينهم من الفتن احسن التاويلات و

بعض ما قال من اجل ذلك كان بينهم من الفتن احسن التاويلات و

و یسکت عما وراء ذلك كما قال: اذا ذكر اصحابی فامسکو۔
 حضور ﷺ کی تعظیم و تکریم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کے صحابہ کی تعظیم کی جائے ان کے ساتھ نیکی کی جائے ان کے حقوق کو پہچانا جائے اسی طرح ان کی اقتدا کرنی، عمدہ الفاظ میں تعریف و توصیف کرنی اور ان کے آپس کے اختلافات سے کف لسان کرنا ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، مؤرخین کے اقوال گم راہ شیعوں اور بدعتیوں کی بے سرو پا روایتوں سے احتراز کرنا اور ان کے آپس کے جھگڑوں اور اختلاف کو اچھی تاویلات پر محمول کرنا اور وہ ان تمام باتوں کے اہل بھی ہیں۔ اسی طرح انہیں برائی سے یاد نہ کرے بل کہ ان کے حسنات اور فضائل بیان کرے اس کے علاوہ تمام باتوں سے خاموشی اختیار کرے جیسا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو زبانوں کو قابو میں رکھا کرو! آگے مزید فرماتے ہیں:

قال رجل للمعافی ابن عمران ابن عمر بن عبد العزیز عن معاویة ففضب و قال لا یقاس باصحاب النبی ﷺ احد معاویة صاحبه و صهره و کابته و امته علی و حیه الخ
 ایک آدمی نے حضرت معافی بن عمران بن عبد العزیز کے سامنے حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ بری بات کی تو وہ غصہ میں آگئے اور فرمایا کہ رسول اللہ کے صحابہ کو کسی پر قیاس نہ کیا جائے۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، کاتب رسول ہیں اور وحی کے امین ہیں۔

: امام نووی شرح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ

الروایات صریحة فی ان علیا رضی اللہ عنہ کان هو المصیب الحق و الطائفة الاخری اصحاب معاویة کانوا بغاۃ مناوئین و لیه التصریح بان الطائفتین مومنون لا یمرجون بالقتال عن الایمان و لا یفسقون و هذا مذهبنا و مذهب موافقینا۔

اس بارے میں صریح روایات ہیں کہ حضرت علی بن مصعب پر کبھی اور حضرت معاویہ کے گروہ نے ان سے بغاوت کی تھی اور اسی میں یہ صریح ہے کہ رسول اللہ

گروہ مومن ہیں اور اس جدال و قتال سے ایمان سے خارج نہیں ہوئے اور فاسق بھی نہیں ہوئے۔ یہی ہمارا اور ہمارے اصحاب کا مذہب ہے۔

اسی شرح مسلم کی کتاب الفتن میں امام نووی فرماتے ہیں:

و اعلم ان الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بدخلة في هذا الوعيد و مذهب اهل السنة و الحق احسان الظن بهم و الامساك عما شجر بينهم و تاويل قتالهم و انهم مجتهدون متاولون لم يقصدوا معصية و لا محض الدنيا بل اعتقد كل فريق انه الحق و مخالفه باغ فوجبت عليه قتاله ليرجع الى امر الله و كان بعضهم مصيباً و بعضهم مخطئاً معذوراً في الخطاء لان اجتهاد المجتهد اذا اخطا لا اثم عليه و كان على رضي الله عنه هو الحق المصيب في تلك الحروب هذا مذهب اهل السنة۔

جانتا چاہیے کہ وہ خون ریزی جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین واقع ہوئی ہے وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے اور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھو، ان کے آپس کے اختلافات سے خاموشی اختیار کرو اور ان کے جدال و قتال کی تاویل یہ ہے کہ وہ مجتہد اور تاویل کرنے والے تھے۔ انہوں نے یہ اختلاف معصیت اور دنیا کی ہوا و حرص کے لیے نہیں کیا بلکہ ان دونوں گروہوں میں ہر ایک پر اعتقاد رکھتا تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف غلطی پر ہے اس صورت میں قتال واجب تھا تا کہ مخالف گروہ کو اللہ کے راستے کی طرف واپس پھیر دیا جائے چنانچہ اس اجتهاد میں بعض مصیب اور بعض مخطی تھے، لیکن معذور فی الخطا تھے اس لیے کہ مجتہد سے جب خطا ہو جائے تو اسے مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان جنگوں اور لڑائیوں میں حضرت علی کا اجتهاد مصیب اور درست تھا۔ اہل سنت کا

مذہب کی ہے۔

اس لیے کہ امام نووی مدظلہ العالی نے فرمایا: "يا عمار تقتلك فنة الباغية" (اے عمار! تجھے باغی

مذہب کے لوگوں نے قتل کرنے کی نیت سے بلایا تھا۔)

و الطائفة الاخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا اثم عليهم لذلك كما قد
مناه في مواضع۔

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت علی کی اصابت اور حق پر ہونے اور
دوسرے گروہ کے باغی ہونے پر واضح دلیل ہے چوں کہ دوسرا گروہ بھی مجتہد تھا اس
لیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی مقامات پر وضاحت کی
ہے۔

علامہ زرقانی شرح مواہب میں توفیر صحابہ اور جاہل مؤرخین کی منقولہ روایات طعن و تشنیع
سے عدم اتفات کی وضاحت کے بعد فرماتے ہیں کہ

و ما وقع بينهم من المنازعات و المحاربات فله محامل و تاويلات
و هو ان كلا اداة اجتهاده الى ان الحق ما فعله فتعين عليه و ان كان
اخطاء ك معاوية مع علي فانه مصيب باتفاق اهل الحق و معاوية
ما جور و ان اخطا۔

ان حضرات کے مابین جو منازعات اور محاربات تھے ان کے محامل اور تاویلات ہیں
اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اجتہاد کے تقاضے کو پورا کیا، اگرچہ اس میں غلطی بھی
ہوئی جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا حالانکہ بہ اتفاق
اہل حق حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی غلطی کے باوجود
عند اللہ ماجور ہیں۔

علامہ زرقانی اسی شرح مواہب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے بیان میں فرماتے ہیں:
منها ان اصحابه كله عدول بتعديل الله تعالى و تعديله عليه السلام
لظواهر الكتاب نحو: محمد رسول الله و الذين معه الائمة و السببة
لتقبل رواياتهم كما نص عليه ابن الانباري و غيره و اشار اليه بقوله
فلا يبحث عن عدالة احد منهم في شهادة و لا رواية كما يبحث عن
سائر الرواة و غيرهم لانهم خير الامة و من طرد منهم فادح كسرقة
و زنا عمل بمقتضاء و لكن لا يفسقون بما يفسق به غيرهم كقول
ذكره جلا المحلي في شرح جامع الجوامع فتقبل رواياتهم و لا

شہاداتہم و لو وقعت کبیرة من بعضهم اقیم حدھا۔
 تمام صحابہ تعدیل الہی اور تعدیل حضور ﷺ کے ساتھ عادل ہیں جس کا ثبوت ظواہر
 کتاب و سنت سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: محمد رسول اللہ و
 الذین معہ الایة، تو ان کی روایات قبول کی جائیں گی، علامہ ابن الانباری نے اس
 طرف اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ دوسرے راویوں کی طرح ان کی شہادت
 اور روایت میں کسی کو بھٹے نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ یہ خیر الامت ہیں اور جن
 حضرات نے چوری اور زنا ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے اُسے اقتضائے بشری پر محمول کیا
 جائے گا اور جس عمل سے دوسروں کو فاسق کہا جاتا ہے اس عمل سے صحابہ کو فاسق نہیں
 کہا جاسکتا جیسا کہ علامہ جلال الدین محلی نے شرح جمع الجوامع میں لکھا ہے کہ ایسے
 افراد کی روایت اور شہادت قبول کی جائے گی، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان میں سے
 کسی سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا تو اس پر حد لگے گی۔

دونوں گروہ مسلمان تھے:-

علامہ زرقانی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین صلح والی حدیث کو
 شرح میں لکھا ہے کہ

و فیہ الہ لم ینخرج احد من الطائفتین فی تلک الفتنة بقول او عمل عن
 الاسلام الا احدهما مصیبة و الاخری منخطئة و کل منہما ماجور۔
 اس فقرے میں شامل دونوں گروہوں میں کوئی ایک بھی نہ قولاً اور نہ فعلاً اسلام سے خارج
 ہوا، مگر ایک گروہ مصیب اور دوسرا غلطی تھا اور دونوں ہی اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔

حضرت حسن کی دست برداری کی اصل وجہ:-

علامہ سطلابی شرح بخاری باب علامات النبوة میں حدیث و لعل اللہ یصلح بہ فتنین
 من المسلمین (اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرواے

و فیہ الہ لم ینخرج احد من الطائفتین فی تلک الفتنة بقول او عمل عن
 الاسلام الا احدهما مصیبة و الاخری منخطئة و کل منہما ماجور۔

الامر فدعاه ورعه الى ترك الملك رغبة فيما عند الله و لم يكن ذلك لعدة و لا لقلة و قوله من المسلمين دليل على انه لم يخرج احد من الطائفتين في تلك الفتنة من قول او فعل عن الاسلام اذ احدى الطائفتين مصيبة و الاخرى مخطئة ماجورة۔

فستين سے مراد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا گروہ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے، جنہوں نے ان کے ہاتھ پر مرنے کی بیعت کی ہوئی تھی ایسے لوگوں کی تعداد چالیس ہزار تھی۔ خلافت کے سب لوگوں سے زیادہ حق دار حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تھے لیکن ان کے ورع و تقویٰ اور رغبت مع اللہ نے انہیں دنیاوی حکومت سے دور رکھا۔ آپ کی طرف سے صلح کی پیش کش کم زوری اور قلت لشکر کی وجہ سے نہیں تھی، حدیث پاک میں لفظ المسلمین اس بات کی دلیل ہے کہ اس فتنے میں شامل دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی قولاً اور فعلاً اسلام سے خارج نہیں ہوا، ان دونوں میں سے ایک مصیب اور دوسرا مخطی ہے، لیکن عند اللہ دونوں ماجور و مثاب ہیں۔

حضرت معاویہ کے لیے دعا:-

حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کرتے ہوئے

ارشاد فرمایا:

”اے اللہ! تو ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے سے

ہدایت دے!“

اس حدیث کی شرح کے ضمن میں ملا علی قاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:

لا ارباب ان دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب فمن كان هذا حاله كيف

یوناب فی حقہ۔

بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے تو جس کی ایسی حالت ہے اس کے بارے میں

کیسے شک کیا جاسکتا ہے۔

صحابی کا مرتبہ:-

یہی ملا علی قاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں دوہرہاں پر صحابہ کرام کی تہلیل سے بیان کرتے ہوئے

لکھتے ہیں کہ

مثل لابن المبارک ایہما افضل معاویہ او عمر بن عبد العزیز فقال
الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ مع النبی ﷺ خیر من مثل
عمر بن عبد العزیز کذا کذا مرۃ۔

اگر کوئی آدمی حضرت ابن مبارک سے حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز
کے بارے میں سوال کرتا کہ ان میں سے کون افضل ہے تو آپ فرماتے حضور ﷺ
کے ساتھ جاتے ہوئے حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا وہ
عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے۔

قطعیت اور قطعیت میں فرق :-

بجز اہل مذہب میں ہے کہ

اجمع اهل السنة و الجماعة علی وجوب تعظیم الصحابة و الکف
عن ذکرهم الا بخیر لما ورد من الآیات و الاحادیث فی فضائلهم و
مناقبهم و وجوب الکف عن الطعن فیہم عموماً۔

اہل سنت و جماعت کا تعظیم صحابہ کے وجوب، ان کی اچھی باتوں کے ذکر اور
ناپسندیدہ باتوں سے خاموشی پر اجماع ہے اس لیے کہ آیات و احادیث ان کے
فضائل و مناقب میں وارد ہیں ان حضرات کے بارے میں طعن و تشنیع سے زبان کو
روکنا واجب ہے۔

وہ آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ جو عمومیت کے ساتھ صحابہ کی فضیلت میں تھیں لکھنے کے

بعد فرماتے ہیں کہ

و ما نقلہ از باب الستیر فی بعضہم کعماویہ و عمرو بن العاص و
عبید بن شعبہ و غیرہم رضی اللہ عنہم یفمض عنہ و لا یسمع اذ
لفعل کتبتہم مع النبی ﷺ قطعی و ما نقل ظنی فلا یزاحم
القطعی و انما یقال ان النبی ﷺ اذا ذکر اصحابی فامسکوا و
لا یسب علی کل من یسب شیئاً من ذلك ان یلیث فیہ و لا یسب الی

احدهم لمجرد رواية في كتاب او سماعه من شخص بل لا بد ان يبحث عنه حتى يصح عنده نسبه الى احدهم فحينئذ الواجب ان يلتزم لهم احسن التاويلات اصوب المخارج اذ هم اهل لذلك و ما وقع بينهم من المنازعات و المحاربات فله محامل و تاويلات۔

ارباب سیر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے صرف نظر کرنی چاہیے اور ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے اس لیے کہ ان کی فضیلت و صحبت مع انبی صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم قطعی ہے اور ارباب سیر کے اقوال ظنی ہیں اور جو چیز ظن سے منقول ہو وہ قطعی سے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کا ارشاد ہے جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو اور جو آدمی بھی ان حضرات کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات سنے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس میں غور کرے صرف کسی کتاب میں دیکھنے یا کسی شخص سے سنانے سے ان کی طرف نسبت نہ کرے، غور و خوض کے بعد جب ایک چیز ثابت ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کی اچھی تاویل کرے اور اُسے درست مخارج پر محمول کرے اس لیے کہ وہ اس (حسن ظن) کے اہل ہیں، اور ان کے درمیان جو اختلافات اور جنگیں واقع ہوئیں ان کی تاویلیں ہیں۔

خلافت میں اختلاف کے وقت خلیفہ کون تھا؟۔

اسی طرح صاحب بحر اہب ائمہ دین کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ فتلخص ان معاویة رضی اللہ عنہ لم یکن فی ایام علی رضی اللہ عنہ خلیفة و انما کان خلیفة حق و امام صدق بعد علی رضی اللہ عنہ عند تسلیم الحسن رضی اللہ عنہ امر الخلافة له و ان هذا التسليم لم یکن اضطراریا بل اختیاریا و انه لم یستحق الثین و الطعن و لا یباح له السب و اللعن فالطاعن فيه مطعون طاعن فی نفسه و دینہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خلیفہ نہیں تھے بل کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے امر خلافت ان کے سپرد کرنے کے بعد وہ ظاہر

برحق اور امام صادق مقرر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا خلافت سے دست بردار ہونا
اضطراری نہیں بل کہ اختیاری تھا۔ ان پر عیب جوئی اور طعنہ زنی سے باز رہنا چاہیے
اور دشنام طرازی سے احتراز کرنا چاہیے ان پر طعنہ زن خود مطعون ہے بل کہ وہ
اپنے نفس اور دین پر طعنہ زنی کر رہا ہے۔

علامہ ابن حجر کی ”صواعق محرقة“ میں فرماتے ہیں کہ

و من اعتقاد اهل السنة و الجماعة ان ماجرى بين علي و معاوية من
الحروب فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي رضي الله عنه في الخلافة
للاجماع علي حقيتها لعلي فلم تهيج الفتنة بسببها و انما هاجت
بسبب ان معاوية و من معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان رضي
الله عنه اليهم لكون المعاوية ابن عمه فامتنع علي ظنا منه ان
تسليمهم اليه علي الفور مع كثرة عشائرهم يؤدي الي اضطراب و
نزول في امر الخلافة۔

یہ بات اہل سنت و جماعت کے اعتقاد میں شامل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت
معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس پر اجماع ہے کہ وہ استحقاق خلافت
میں نہ تھیں اور جو فتنے برپا ہوئے ان کا سبب بھی یہ نہ تھا بل کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قاتلین عثمان کو مانگتے تھے، حضرت علی انہیں سپرد کرنے سے یہ
گمان کرتے ہوئے احتراز کر رہے تھے کہ ان قاتلین کے رشتہ داروں کی کثرت کی
وجہ سے ان کی فوری سپردگی سے اختلاف پھیلے گا اور نظام حکومت تہ و بالا ہو کر رہ
جائے گا۔

علامہ ابن حجر کی ”صواعق محرقة“ کے ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ

و من اعتقاد اهل السنة و الجماعة ايضا ان معاوية رضي الله عنه لم
يطلب من علي تسليم قتلة عثمان و انما هاجت الفتنة بسببها و انما هاجت
بسبب ان معاوية و من معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان رضي
الله عنه اليهم لكون المعاوية ابن عمه فامتنع علي ظنا منه ان
تسليمهم اليه علي الفور مع كثرة عشائرهم يؤدي الي اضطراب و
نزول في امر الخلافة۔

اہل سنت کے اعتقاد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ تھے البتہ انہیں اپنے اجتہاد کا ایک اجر ضرور ملے گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک اجر صرف اجتہاد پر اور دوسرا اجتہاد کے درست ہونے پر ملے گا بل کہ دس اجر ملیں گے۔

خلافت حضرت معاویہ:-

”صحیح بخاری“ کی وہ حدیث جو پیچھے مذکور ہوئی جس میں حضور اکرم ﷺ نے امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ ہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اس حدیث کے تحت علامہ ابن حجر مکی ”صواعق محرقة“ میں فرماتے ہیں:

فكان توجيهاً ﷺ لوقوع الاصلاح بين الفئتين من المسلمين فيه دلالة على صحة ما فعله الحسن رضي الله عنه و علي انه مختار فيه و علي ان تلك الفوائد الشرعية و هي صحة خلافة معاوية فالحق ثبوت الخلافة لمعاوية من حيثها و انه بعد ذلك خليفة حق و امام صدق كيف و قد اخرج الترمذي و حسنه عن عبد الرحمن بن ابي عميرة الصحابي عن النبي ﷺ انه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا و اخرج احمد في مسنده عن العرياض ابن سارية سمعت رسول الله ﷺ يقول: اللهم علم معاوية الكتاب و الحساب و قبه العذاب فتأمل دعاء النبي ﷺ في الحديث الاول بان الله يجعله هاديا مهديا الحديث حسن فهو مما يحتج به علي فضل معاوية و انه لا ذم يلحقه بتلك الحروب لما علمت انها كانت بغية علي اجتهد لان المجتهد اذا اخطأ لا يلام عليه و لا ذم يلحقه بسبب ذلك لانه معذور و لذا كتب له اجر و بما يدل بفضله ايضا الدعاء له في الحديث الثاني و لا شك ان دعاء النبي ﷺ مستجاب فعلمنا انه لا عقاب علي معاوية لما فعل بل له الاجر كما تقرر و قد سمي النبي ﷺ فتنة مسلمين فدل علي بقاء حرمة الاسلام و انهم لكان

علی حد سواء فلا فسق و لا نقض يلحق احد بهما لما قرناہ و فنة معاوية و ان كانت باغية لكنه بغى لا فسق۔

اس حدیث میں حضور ﷺ نے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے مابین صلح کا ذکر فرمایا اور یہ دلیل ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے درست ہونے کی دوسری بات یہ ہے کہ اس سے صلح کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا صحیح ہونا بھی ثابت ہوا۔ حق بات تو یہ ہے کہ اس صلح کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت ہو گئی اور وہ اس کے بعد خلیفہ برحق اور امام صادق قرار پائے۔

امام ترمذی نے روایت کی ہے اور اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا (اے اللہ! معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا) اور امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”اے اللہ! معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اس کو عذاب سے بچا!“

پہلی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ آپ کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہادی و مہدی بنائے۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے مابین جو جنگیں ہوئیں ہیں ان میں آپ پر انگشت نمائی نہیں کی جاسکتی کیوں کہ وہ جنگیں اجتہاد پر مبنی تھیں اور اگر محمد غلطی کرے تو اس کا عذر معقول ہونے کی وجہ سے اس کی ملامت اور مذمت نہیں کی جائے گی۔ اسی غلطی کی وجہ سے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہو رہا ہے۔

دوسری حدیث میں بھی رسول اللہ ﷺ آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور دعائے رسول ﷺ مستجاب و مقبول ہے چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی غلطی میں کیا ہے اس پر انہیں اجر ملے گا۔ حدیث مذکورہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی کا اللہ نے عذر دیا ہے اور اس کی بقا پر دلالت کر رہا ہے۔ اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس غلطی میں توبہ کی ہے اور اس کی مذمت نہیں۔ اگرچہ

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی تھا، لیکن اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔
علامہ ابن حجر مکی "صواعق محرقہ" میں فرماتے ہیں:

و اما ما يستبحه بعض المبتدعة من سبه و لعنه فله فيه اسوة اى اسوة
بالشيخين و عثمان و اكثر الصحابة فلا يلتفت لذلك و لا يقول عليه
فانه لم يصدر الا من قوم حمقاء جهلاء فلعنهم الله و خذلهم اقبح
اللعنة و الخذلان و اقام على رءوسهم من سيوف اهل السنة ما
وضح الدلائل و البرهان۔

یہ جو بعض بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ "جس نے ان حضرات کو گالی دی اور ان پر لعنت
بھیجی اس کے لئے طریقہ ہے۔" یعنی حضرات شیخین اور حضرت عثمان کا طریقہ ہے
ان کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں کیوں کہ ایسی باتیں اکثر جہلا کرتے ہیں۔ ایسے
لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو اور ذلیل و رسوا ہوں اہل سنت کے واضح دلائل و براہین کی
تلواریں ایسے لوگوں کے سروں پر ٹٹک رہی ہیں۔

خون بہا میں تاخیر کا سبب:-

علامہ ابن ہمام "مسائرہ" میں فرماتے ہیں:

و ما جوی بین معاویة و علی رضی اللہ عنہ کان مبنیاً علی الاجتهاد
و لا منازعة من معاویة اذ ظن علی رضی اللہ عنہ ان تسلیم قتلة
عثمان مع كثرة عشائرم و اختلاطهم بالعسكر یودی الی
اضطراب امر الامامة خصوصاً فی بدايتها و التاخیر اصوب الی ان
یتحققوا التمكن منه و یلتقطهم فان بعضهم عزم علی الخروج علی
و قتله لما نادى يوم الجمل بان ینخرج عنه قتلة عثمان علی ما نقل
فی القصة من كلام الاشر النعمی ان صح۔ واللہ اعلم۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ منازعت اور جھڑپے پر نہیں،
اجتہاد پر مبنی تھی۔ حضرت علی کا خیال تھا کہ قاتلان عثمان بڑے قہرے والے ہیں اور
فوج میں شامل ہو گئے ہیں اب اگر کوئی فوری کارروائی سامنے آئی ہے تو اس سے

نظام خلافت درہم برہم ہو جائے گا اس لیے تاخیر زیادہ مناسب ہے یہاں تک کہ ان پر مکمل کنٹرول نہ ہو جائے کیوں کہ اشتر نخعی سے یہ بات منقول ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی نے آواز دی کہ قاتلین عثمان ہم سے علاحدہ ہو جائیں تو ان لوگوں نے آپ پر بھی خروج اور قتل کی تدبیر سوچنی شروع کر دی۔

اختلاف صحابہ:-

”شرح عقائد نسفی“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان میں ہے کہ

و ما وقع من المخالفات و المحاربات لم یکن من نزاع فی خلافة بل عن خطاء فی الاجتهاد۔

ان میں جو جنگیں اور مخالفتیں ہوئیں وہ استحقاق خلافت میں نہیں تھیں بل کہ خطائے اجتہادی تھی۔

علامہ خیالی اس کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

قوله بل عن خطاء فی الاجتهاد فان معاوية و حزابہ بغوا عن طاعته مع اعترافهم بان افضل اهل زمانہ و انه الاحق بالامامة بشبهة هي ترك القصاص عن قتل عثمان رضی اللہ عنہ۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس اعتراف کے باوجود کہ وہ اہل زمانہ سے افضل اور امامت کے زیادہ حق دار ہیں قاتلین عثمان سے قصاص نہ لینے کے شبہ میں بغاوت کر دی۔

علامہ قاری ”شرح نقدا کبر“ میں لکھتے ہیں:

لا تذكرو الصحابة الا بخير يعني و ان صدر من بعضهم بعض مافی

صورة شر لانه اما كان عن اجتهاد او لم یکن علی وجه فساد من

اصحاب و عناد بل كان رجوعهم عنہ الی خیر معاوینا علی حسن

الظن به و قوله عليه السلام خیر القرون قرنی۔ و بقوله عليه

السلام انما اصاب من الناس من قبلی و بعدی من اهل الذم و العار و

اللعن و الاثم و الذم و العار و الذم و العار و الذم و العار و الذم و العار

اللہ عنہ و کذا بعدها و لقوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم۔ رواه الدارمي وابن عدی وغيرهما۔ قال ابن دقيق العيد في عقيدته ما نقل فيما شجر بينهم و اختلفوا فيه فمنه ما هو باطل و كذب فلا يلتفت اليه و ما كان صحيحا اولناه تاويلا حسنا لان الثناء عليهم من الله سابق و ما نقل من الكلام اللاحق محتمل للتاويل و المشكوك و الموهوم و لا يتبطل المحقق و العلوم۔

صحابہ کا ذکر خیر ہی کرو! اگر ان میں کسی کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہ ظاہر نظر آتی ہیں تو وہ یا تو اجتہاد کی قبیل سے ہیں یا ایسی ہیں جن سے ان کا مقصد فساد و عناد نہیں بل کہ ان حضرات سے حسن ظن کی بنا پر خیر پر محمول کرنا چاہیے کیوں کہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”سب سے بہتر زمانہ میرا ہے“ اور مزید ارشاد فرمایا کہ ”جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو!“ اسی لیے جمہور علما کا قول ہے کہ تمام صحابہ کرام قتل عثمان اور اختلاف علی و معاویہ کے پہلے بھی اور بعد بھی عادل ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے جسے دارمی اور ابن عدی نے روایت کیا ہے کہ ”میرے صحابہ سفاروں کی مانند ہیں، تو ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔“ علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ ”مشاجرات صحابہ میں دو قسم کی روایتیں منقول ہیں ایک باطل اور جھوٹ، یہ تو قابل اعتنا ہی نہیں اور دوسری صحیح روایتیں، ان کی اچھی اور مناسب تاویل کرنی چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کی تعریف و توصیف فرما چکا ہے اور بعد میں جو باتیں ان سے منسوب یا منقول ہیں وہ قابل تاویل ہیں اس لیے کہ محقق و معلوم کو مشکوک و موهوم چیز باطل نہیں کر سکتی۔

ملا علی قاری ”شرح فقہ اکبر“ میں فرماتے ہیں:

و اما ما وقع من امتناع جماعة من الصحابة عن نصره علي رضي الله عنه و الخروج معه الى المحاربة و من معارضة طائفة منهم كمال في حرب الجمل و الصفيين فلا يدل علي عدم صحة ما روينا ولا علي تضليل مخالفيه في ولايته إذ لم يكن ذلك من وحيه بل كان عن خطأ في اجتهادهم حيث كذبوا علي رضي الله عنه بل كان عن خطأ في اجتهادهم حيث كذبوا علي رضي الله عنه بل كان عن خطأ في اجتهادهم حيث كذبوا علي رضي الله عنه

قتلة عثمان رضى الله عنه و المنخطى فى الاجتهاد و لا يضل و لا
يفسق على ما عليه الاعتماد۔

اور یہ جو بعض صحابہ حضرت علی کی مدد و نصرت سے باز رہے، اور کچھ نے ان کے
ساتھ جنگ کرنے کے لیے خروج کیا، جیسا کہ جنگ جمل و صفین میں ہوا تو اس چیز
سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی مخالفین کی گم راہی ثابت
ہوتی ہے کیوں کہ اختلاف و نزاع آپ کی امارت و خلافت کے حق ہونے میں نہیں
تھابل کہ اختلاف قاتلان عثمان سے جلد یا بدیر بدلہ لینے میں تھا اس میں بھی
اختلاف اجتہادی تھا، لہذا معتد قول کے مطابق اختلاف کرنے والوں کو نہ گم راہ کہا
جائے گا نہ فاسق۔

اسی "شرح فقہ اکبر" میں ہے کہ

وقد كان امر طلحة و الزبير خطاء غير انهما فعلا ما فعلا عن اجتهاد
و كان من اهل الاجتهاد فظاهر الدلائل توجب القصاص على قتل
العمد و استيصال شان من قصد دم امام المسلمين بالاراقة على
وجه الفساد فاما الوقوف على الحاق التاويل الفاسد بالصحيح فى
حق ابطال المواخذة فهو علم خفى فاز به على كما ورد عن النبى
ﷺ انه قال له انك تقابل على التاويل كما تقابل على التنزيل و
قد قلما على ما فعلا و كذا عالمة رضى الله عنها ندمت على ما
فعلت و كانت تبكى حتى تبل خمارها ثم كان معاوية رضى الله عنه
منخطئا الا انه فعل ما فعل عن تاويل فلم يصر به فاسقا و اختلف اهل
السنة و الجماعة فى تسمية باغيا فمتهم من امتنع من ذلك و
المتهم قول من اطلق القراب عليه السلام لعمار: تقتلك الفئة الباغية۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں جو لوگ آپ کی مدد نہ کی، ان کو باغی کہا گیا۔
اسی طرح جنگ صفین میں جو لوگ آپ کی مدد نہ کی، ان کو باغی کہا گیا۔
اسی طرح جنگ جمل میں جو لوگ آپ کی مدد نہ کی، ان کو باغی کہا گیا۔
اسی طرح جنگ صفین میں جو لوگ آپ کی مدد نہ کی، ان کو باغی کہا گیا۔
اسی طرح جنگ جمل میں جو لوگ آپ کی مدد نہ کی، ان کو باغی کہا گیا۔

فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ رہی یہ آگاہی کہ تاویل فاسد مواخذہ (دنیا) اٹھا دینے میں (عند الشریع) تاویل صحیح کے مساوی ٹھہری ہے تو یہ وہ علم خفی تھا جو حضرت علی کے حصے میں آیا تھا۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ سے فرمایا تھا کہ ”تم سے تاویل پر جنگ کی جائے گی جیسا کہ تنزیل پر کی گئی ہے“ چنانچہ بعد میں دونوں صحابی اپنے کیے پر نادم تھے اور حضرت عائشہ بھی پچھتاتی تھیں اور اتنا رو تیں کہ دوپٹہ تر ہو جاتا، حضرت معاویہ بھی اگرچہ خاطمی تھے، مگر آپ نے جو کچھ کیا تاویل کی بنیاد پر کیا، لہذا اس سے آپ فاسق نہیں ہوئے، اہل سنت و جماعت نے انھیں باغی کہنے میں اختلاف کیا بعض نے اس سے روکا، لیکن دوسرا گروہ رسول اللہ کی وہ حدیث پیش کرتا ہے جس میں آپ نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کہ ”تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ”تکمیل الایمان“ میں فرماتے ہیں:

و نکف عن ذکر الصحابة الا بخیر روش اہل السنۃ و جماعت آنت کہ صحابہ رسول را بجز خیر یاد نمی کند و لعن و سب و شتم و اعتراض و انکار بر ایشان نکند و با ایشان بہ راہ سوی ادب نروند از جہت نگاہ داشت صحبت آن حضرت ﷺ و ورود فضائل و مناقب ایشان در آیات و احادیث عموماً۔

ہم صحابہ کا صرف ذکر خیر ہی کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ صحابہ کا ذکر خیر ہی کیا جائے۔ ان پر لعن طعن، تشنیع اور اعتراض و انکار نہ کیا جائے اور ان سے سوئے ادبی نہ کی جائے، کیوں کہ ان حضرات نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے اور ان کے فضائل و مناقب آیات و حدیث میں بہ کثرت موجود ہیں۔ مزید فرماتے ہیں:

و از ان چہ از بعضی از ایشان مشاجرات و محاربات و تقصیر در حفظ حقوق اہل بیت نبوی و رعایت ادب ایشان نقل کنند بعد از تسلیم صحبت آن اخبار از ان انما من و در ذمہ و تعامل کنند و گفتہ ناگفتہ و شنیدہ ناشنیدہ انکار نہ زبیرا کہ صحبت ایشان با حقیر لایق است و نقل ہای دیگر ظنی و ظن با یقین معارض گردد و یقین بہ ظن ہرگز نہ گردد و در حدیث دار السلام و سنہ با معاویہ و عمرو بن العاص و غیرہ من شہدوا انہما لایقین است

ہر کہ بہ راہ اتباع مشائخ سنت و جماعت اود گو کہ زبان را از سب و لعن ایشان بر بندود
 اگر چه بہ بہت تصور بعضی امور کہ قدر مشترک ازاں بسرحد تو اتر رسیدہ است باطن را
 کہ دورتی و خاطر او حشتی دست دہد باوجود او سلامت در انماض و کف از ایشانست در
 آثار آمدہ است کہ در غزوه صفین شخصے را از جانب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نزد حضرت
 امیر مومنینؑ اسیر کردہ آوردند کیے از حاضران بر حال وی ترحم آورد و گفت سبحان اللہ من
 می دانم کہ وے مسلمان بود و مسلمان خوب بود حیف کہ آخر حال وے چنین شد حضرت
 امیر ولایت پناہ فرمود کہ چہ گوئی کہ وی ہنوز مسلمان است و با جملہ بے لعن در ایشان
 اگر مخالف دلیل قطعی باشد کفر است چنان چہ قذف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ من
 ذلک کہ طہارت ذیل وی ازاں پہ نصوص قرآن ثابت است و انما بدعت و فسق بود۔

بعض کی آپس میں مشاجرات و محاربات اور اہل بیت رسول کے حقوق میں کوتاہی
 منقول ہے اس میں اول تو تحقیق و تفتیش کی جائے اگر ایسی کوئی چیز ثابت بھی ہو تو
 اسے گفتہ نہ گفتہ اور شنیدہ نہ شنیدہ کر دیا جائے کیوں کہ ان حضرات کی صحبت مع انبی
 یقینی ہے اور روایات قطعی۔ چنان چہ ظن یقین کا معارض نہیں اسی لئے ظن سے یقین
 متروک نہیں ہوتا۔ چنان چہ سرحد دار السلام پر آباد حضرات میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
 حضرت عمرو بن عامرؑ اور مغیرہ بن شعبہ وغیرہم کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو حد تو اتر
 کو پہنچی ہوئی ہیں جنہاں سے باطن میں کہورت اور دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے لیکن
 جو لوگ مشائخ اہل سنت و جماعت کے تابع ہیں اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں اور ان
 حضرات کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ زبان پر نہیں لاتے آثار میں ہے کہ جنگ
 صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ایک گرفتار شدہ آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
 خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی کو اس پر رم آگیا اور کہنے لگا:
 "تو کون ہے؟" اس نے کہا: "میں مسلمان سمجھتا تھا اسوں کہ آخر ان کی یہ حالت ہو
 گی۔" اس نے کہا: "تو کون ہے؟" اس نے کہا: "میں مسلمان ہوں۔"

اسی میں آگے فرماتے ہیں:

و بعد از وی علی مرتضیٰ خود متعین بود پس وے کرم اللہ وجہہ بہ! جماع اہل حل و عقد خلیفہ برحق و امام مطلق شد و نزاع و خلافتی کہ از مخالفان در زمان خلافت وی بہ وجود آمد نہ در استحقاق خلافت و حق امامت بود بل کہ منشا ی آن نفی و خروج و خطا در اجتهاد کہ تعجیل عقوبت قاتلان عثمان باشد بود پس معاویہ و عائشہ بر آں آمدند کہ زود عقوبت باید کرد علی و صحابہ دیگر بہ تاخیر آں رفتند۔

شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ (حق دار ہونے کی بنا پر) خود بہ خود خلیفہ متعین ہو گئے۔ آپ اہل حل و عقد کے اجماع سے خلیفہ برحق اور امام مطلق ہوئے اور مخالفین کی طرف سے جو نزاع آپ کے دور خلافت میں ہوا وہ استحقاق خلافت اور حق امامت میں نہیں تھا بل کہ اس بغاوت و خروج کا منشا اجتهاد میں خطا تھی کہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ قاتلین عثمان کو فوری سزا دینے کے حق میں تھے، اور حضرت علی اور دیگر صحابہ اس میں تاخیر مناسب سمجھتے تھے۔

علامہ جمال الدین محدث "روضۃ الاحباب فی سیرۃ النبی والالہ والاصحاب" میں فرماتے ہیں: پوشیدہ نماند کہ مخالفت و مخالفت کہ میان بعضی از صحابہ واقع شدہ نزد اہل سنت و جماعت محمول بر این است کہ عن اجتهاد بود لکن نفسانیت و ہمہ آں ہا قائل تاویلات و محال صحیحہ است و یہ تقدیر تسلیم کہ بعضی از محمل تویم و تاویلیہ مستقیم نباشد گویم این مخالفت و خصامات منقول ست از یثاں بہ طریق اخبار آحاد و اکثر آں ہا اصناف و جائزۃ الکذب است و صلاحیت معارضہ بہ آیات قرآنی و احادیث صحیحہ مشہورہ ندارد پس سزاوار آں است کہ بہ سبب آں اخبار جسارت بہ طعن اصحاب جناب نبوۃ مآب کہ آں طعن موجب جسارت است یوم یقوم الحساب نہ نمایند تا ابطال کتاب و سنت بہ اخبار جائزۃ الکذب لازم نیاید و از تہدیدات و وعیدات کہ از صاحب شریعت بہ نبوت پیوستہ پر حذر باشد۔

واضح ہو کہ بعض صحابہ کرام کی آپس میں مخالفت و مخالفت اہل سنت کے نزدیک نفسانیت پر نہیں بل کہ اجتهاد پر محمول ہے۔ اس سلسلہ (مخالفات و مخالفت) کی تمام روایات تاویلات محال صحیحہ کے قائل ہیں۔ اگرچہ ان میں بعض روایات اہل سنت

آں نیکو نباشد شامدان ایشان را بہ بدی یاد مکنید کہ حق تعالی بہ برکت صحبت من
آں ہار از ایشان در گزارند و در این باب احادیث بسیار است۔

تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ صحابہ کرام کو بہ نظر تعظیم دیکھیں اور کسی حال میں
بھی ان نفوس قدسیہ کے سلسلے میں زبان درازی نہ کریں کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے
اس فتنہ سے امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”میرے صحابہ کے بارے میں
اللہ رب العزت سے ڈرو اور انھیں اعتراضات کا نشانہ نہ بناؤ، مجھے اس ذات کی قسم
ہے جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو
بھی اس اجر و ثواب کو نہیں پاؤ گے اور نہ اس کا آدھا جو میرے صحابہ کو حاصل ہے۔“
شیطان لعصب اور نفس پرستی سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ صحابہ
کرام کی آپس کی مخالفت دین کی وجہ سے رسول اللہ کے بعد ان کی سیرت میں تغیر
آگیا تھا آپس میں جنگ کی، خون ریزی کی، مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کیا۔

ان کے متعلق پہلے یہ بات ذہن میں راسخ کر لینی چاہیے کہ وہ بہ ہر کیف آدمی تھے
فرشتے نہ تھے اور منصب نبوت پر بھی فائز نہ تھے کہ گناہوں سے معصوم ہوتے ان
سے خطا تو ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کے شرف صحبت و مجلس کی وجہ سے اس پر اصرار
ممکن نہیں جب کبھی ایسا موقع آیا تو حق بات کی وضاحت کے بعد فوراً حق کی طرف
مائل ہو گئے اس بارے میں اہل حق کا مذہب بھی یہ ہے کہ بندہ صرف گناہ کرنے
سے کافر نہیں ہوتا (اس کی دلیل عن قریب آئے گی) اور اگر کافر نہیں ہوتا تو لازماً
مومن ہوگا تو مومن فاسق کو بھی سب و شتم کرنا جائز نہیں۔ چہ جائے کہ صحابہ کرام کی
برائی کی جائے جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ان کی
عزت و حرمت کی وصیت فرمائی ہے اور ان کی غیب جوئی پر سزائش کی ہے اور فرمایا:
میرے صحابہ سے کچھ نامناسب چیزوں کا صدور ہوگا، لیکن تم لوگ ان پر نکتہ چینی نہ
کرنا کیوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب ان کی اس قسم کی باتوں سے درگزر فرمائے گا۔

امام غزالی کا نقطہ نظر:-

امام غزالی فرماتا ہے: ”یہاں سے عبادت میں اختلاف ہے، لیکن یہاں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ“

پس بہ آخر ہمہ رسول مارا ﷺ بہ خلق فرستاد و نبوت وی بہ درجہ کمال رسانید کہ بیچ زیادت را باں راہ نبود بہ این است اورا خاتم انبیا کرد کہ بعد از وی بیچ پیغمبر نباشد و ہمہ خلق را از جن و انس بہ متابعت او فرمود و اورا ہمہ سید پیغمبران گردانید و یاران و اصحاب اورا بہترین یاران و اصحاب دیگر پیغامبران کرد صلوات اللہ علیہم اجمعین۔
اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے آخر میں ہمارے نبی ﷺ کو مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور مقام نبوت میں وہ کمال عطا فرمایا جس سے زیادتی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور خاتم الانبیا بنا کر بھیجا جن کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آسکتا۔ تمام جن و انس کو آپ کی اطاعت و مطابعت کا حکم دیا گیا اور تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا اور دوسرے انبیاء کرام کے صحابہ سے بہتر صحابہ عطا فرمائے گئے۔

عمر بن عبدالعزیز کا خواب:-

نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ "کیسے سعادت" میں احوال مردماں کے بیان میں لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز میگوید رسول ﷺ را بہ خواب دیدم با ابو بکر و عمر نشسته چوں بہ ایٹاں نشستم ناگاہ علی و معاویہ را بہاوردند و در خانہ فرستادند و در بستر در وقت علی را دیدم کہ بیرون آمد و گفت قضی لی و رب الکعبۃ یعنی کہ حق مرا نہادند پس بزودی معاویہ بیرون آمد و گفت غفر لی و رب الکعبۃ مرا نیز غفورند و بیامرزیدند۔

عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو اس حالت میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس محفل میں حاضر ہوا تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں آئے اور ایک مکان میں پہنچے۔ تمہاری قوم بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے اور فرمایا: قضی لی و رب الکعبۃ (خدا نے مجھ کو غفر فرمایا اور رب الکعبہ کی قسم! مجھے معاف کر دیا گیا)۔

یہ خواب عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خطبہ میں خطاب ہونے کے باوجود معذورہ میں کہ جمہور نے اسے سنا اور اس نے اس باب میں موزن عمین کی کتاب میں اسے منقول کیا ہے اور اس کی شرف محفل

اور حضور ﷺ کے وعدہ کے مطابق صحابہ کرام کی خطائیں بخشش شدہ اور مغفور ہیں۔

ایک شبہہ کا ازالہ:-

اگر کوئی یہ کہے کہ ”تحفہ اثنا عشریہ“ (تصنیف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) میں رافضیوں اور اہل سنت کے سلسلہ میں ایک سوال و جواب میں مذکور ہے:

سوال: جب آپ انھیں (حضرت معاویہ کو) باغی و متغلب سمجھتے ہیں تو ان پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟

جواب: اہل سنت و جماعت کے نزدیک مرتکب کبیرہ پر لعنت جائز نہیں اور باغی مرتکب کبیرہ ہے اس لئے اس پر لعنت جائز نہیں۔

اس جواب سے ظاہر ہے کہ شاہ صاحب حضرت معاویہ پر اگرچہ لعنت کو جائز نہیں سمجھتے، مگر ان کو مرتکب کبیرہ ضرور سمجھتے ہیں، جب کہ آپ نے ثابت کیا کہ حضرت معاویہ سے خطاے اجتہادی ہوئی تھی۔

اس شبہہ کا جواب یہ ہے کہ ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں شاہ صاحب کا مخاطب فرقہ مخالف سے ہے۔ اس لیے اسے مبنی بر تنزل سمجھا جائے گا، ورنہ اس جواب میں جمہور کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اپنے والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ”ازالۃ الخفا“ کی مخالفت بھی لازم آئے گی۔ حالاں کہ آپ ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں اس کتاب کی تعریف کر چکے ہیں، مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب ”ازالۃ الخفا“ میں فرماتے ہیں:

حضرت معاویہ مجتہد مخطی ہیں اور شبہہ سے تمسک کی وجہ سے معذور ہیں۔ اس پر قصہ اہل جمل کی طرح میزان شرع میں میں نے بہت واضح دلیل دی ہے۔

اور شیخ احمد سرہندی نے اپنے ”مکتوبات“ میں جو قول نقل کیا ہے، شاہ عبدالعزیز کا یہ جواب اس کے بھی مخالف ہے۔

مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے اپنے ”مکتوبات“ میں اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، ”مکتوبات“ جلد اول مکتوب نمبر ۲۵۱ میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی کئی جگہوں پر نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کے تمام صحابہ بزرگ ہیں اور ان کا ذکر عزت و احترام کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔

چاہیے۔ خطیب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحاب و اختارنی منهم اصهاراً و انصاراً فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ و من اذانی فیہم اذاہ اللہ (بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے صحابہ کو پسند کیا انھیں میرے لیے مددگار اور رشتہ داری کے لیے پسند کیا جس نے ان کے بارے میں مجھے محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ اُسے محفوظ رکھے گا اور جس نے ان کے بارے میں مجھے اذیت و تکلیف دی اللہ تعالیٰ اُسے اذیت و تکلیف دے گا)

اور طبرانی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سب اصحابی فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین (جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ تعالیٰ ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے) ابن عدی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان أشدَّ أمتی أجراًهم علی اصحابی (میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ پر جرات کریں گے) ان حضرات کے اختلاف کو اچھی چیز پر محمول کرنا چاہیے اور ہوا و ہوس پر قیاس نہ کرنا چاہیے کیوں کہ ان حضرات کے اختلاف اجتہاد اور تاویل پر مبنی ہیں اور جمہور اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں:

یہ بات پیش نظر رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ و مقاتلہ کرنے والے خطا پر تھے اور حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا چوں کہ یہ خطا اجتہادی تھی اس لیے ان حضرات کو ملامت اور ان سے مواخذہ نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ شارح مواقف نے آمدی سے نقل کیا ہے کہ اختلاف عمل اور صلین اجتہاد پر مبنی تھا۔ شیخ ابو شکور سالمی نے تمہید میں تصریح کی ہے کہ اہل سنت و جماعت اس پر متفق ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب میں خطا پر تھے لیکن یہ خطا خطائے اجتہادی تھی۔ شیخ ابن حجر کی صواعق مبرقعات میں ہے کہ اہل سنت کے اختلافات میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف اجتہاد پر مبنی تھا اور ان کے اختلافات اجتہاد پر مبنی تھے۔ اس قول

میں کون سے اصحاب مراد ہیں (ان کی وضاحت نہیں ہے) اہل سنت کا قول گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں اور علمائے اُمت کی کتابیں اس خطا کے خطاے اجتہادی ہونے پر شاہد ہیں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صراحت کی ہے اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے والوں کی تھلیل و تفسیق جائز نہیں۔ قاضی عیاض شفا میں فرماتے ہیں کہ ”جو شخص صحابہ رسول مثلاً حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر و ابن عباس میں سے کسی ایک پر سب و شتم کرے یا ان کی تھلیل و تکفیر کرے تو اُسے قتل کر دیا جائے اور اگر ائمہ کرام پر سب و شتم کرے تو اُسے سخت ترین سزا دی جائے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تکفیر جائز نہیں جیسا کہ خوارج نے کی اور اسی طرح ان کی تفسیق بھی جائز نہیں جیسا کہ بعض نے کہا ہے اور شارح مواقف نے کہا ہے کہ صحابہ نے ان حضرات کی طرف فسق کی نسبت کی ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر بے شمار صحابہ کرام اس میں شریک تھے بل کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جنگ جمل میں شہید ہوئے جب کہ حضرت معاویہ کا واقعہ جس میں انہوں نے تین ہزار لشکر کے ساتھ خروج کیا (اور معرکہ صفین برپا ہوا) بہت بعد کا ہے، ان حضرات کو فاسق کہنے کی جرأت وعی کر سکتا ہے جس کے دل میں مرض اور باطن میں خبیث ہو۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض علمائے جو لفظ جور استعمال کیا ہے اور کہا ہے: کان اماماً جائراً اس سے مراد وہ جور نہیں جس کا معنی فسق و ضلالت ہے بل کہ اس سے مراد حضرت علی کی موجودگی میں خلافت کا عدم تحقق ہے اور یہ قول مذہب اہل سنت کے مطابق ہے۔ ارباب استقامت خلاف مقصود الفاظ کے استعمال سے اجتناب کرتے ہیں اور خطاے اجتہادی سے زیادہ کچھ نہیں کہتے۔ اس سے زیادہ الفاظ جائز بھی کیسے ہو سکتے ہیں کہوں کہ امام ابن حجر کی ”صواعق حرقہ“ میں لکھے ہیں: قد صح انه كان اماماً عادلاً في حقوق الله سبحانه وفي حقوق المسلمين في تلكه وفي حقوق النبي اور حقوق مسلمانوں میں امام عادل کے ہونے پر۔

مولانا جامی پر اعتراض:-

حضرت شیخ احمد سرہندی اسی مکتوب میں آگے فرماتے ہیں:

مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اس خطا کو خطائے منکر سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً یہ زیادتی ہے، بل کہ خطا پر اضافہ زیادتی ہے اور اس کے بعد مولانا جامی کا یہ فرمانا کہ ”اوستحق لعنت است“ (یعنی وہ لعنت کے مستحق ہیں) بالکل نامناسب ہے اس مقام میں نہ کوئی اشتباہ ہے اور نہ ہی یہ تردید کی جگہ ہے۔ اگر یزید کے بارے میں لکھتے تو اس میں گنجائش تھی لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا قول نامناسب ہے۔ ثقہ اسناد سے حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”اے اللہ! انہیں کتاب و حکمت اور حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے محفوظ رکھ!“ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا: ”اے اللہ! انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا!“، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یقیناً مقبول و منظور بارگاہ خداوندی ہے۔ اصل میں اس مقام پر مولانا جامی سے سہو و نسیان ہو گیا ہے اور وہ ہیں مولانا جامی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لینے کی بجائے ”آں صحابی دیگر“ (وہ دوسرے صحابی) کے الفاظ استعمال کیے یہ بھی مولانا کی ناخوشی پر دلالت کر رہے ہیں

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا۔ (تذکرہ ملخصاً)

امام شعیبی پر اعتراض کا جواب:-

آگے فرماتے ہیں:

حضرت امام شعیبی سے جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت میں منقول ہے اس کے بارے میں حق باعداویہ ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف فسق کی تہذیب کی انہوں کی اولاد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ اس سے بالاتر سمجھتے رہے۔

امام شعیبی نے مولانا جامی کے شاگردوں میں اس لئے ہمارے لیے یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت کا ذکر کرتے۔ امام شعیبی کے شاگردوں نے مولانا جامی کی مذمت کی ہے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔

حضرات ایسے ہوتے تو امام مالک کیسے ان پر سب و شتم کرنے والے کو واجب القتل سمجھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اسے کبار میں شمار کرتے تھے ورنہ حکم قتل نہ لگاتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کو حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی برائی کی طرح تصور کرتے تھے چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کسی مذمت و ملامت کے مستحق نہیں ہیں۔ (ترجمہ ملخصاً)

حضرت معاویہ پر تنقید زندیقوں کا کام ہے:-

اس سلسلہ میں مجدد الف ثانی لکھتے ہیں:

اے برادر! حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس میدان میں اکیلے نہیں بل کہ کم و بیش نصف صحابہ کرام آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو اگر کافر و فاسق کہا جائے تو دین متین کے اس حصے سے دست بردار ہونا پڑے گا جو ان حضرات کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کو صرف زندیق ہی جائز قرار دے سکتے ہیں جن کا مقصد دین مبین کا ابطال ہوتا ہے۔

اے برادر! اس فتنہ کا منشا قاتلین عثمان سے قصاص لینا تھا۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان حضرات کی موافقت و معاونت کی۔ جنگ جمل حضرت علی اور ان حضرات کے مابین ہوئی اور تیرہ ہزار آدمی شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس جنگ کا سبب قاتلین عثمان سے قصاص میں تاخیر کرنا تھا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے اور معرکہ صفین برپا ہوا۔

حضرت امام غزالی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ اختلاف حق و باطل میں نہیں قابل کہ حضرت علی سے مطالبہ قصاص تھا۔ امام ابن حجر کی نے بھی اس قول کو دلیل سنت کے معتقدات میں شمار کیا ہے۔

حضرت شیخ ابوالکھیر ساسی نے مندرجہ بالا قول سے اختلاف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی عبارت نقل کی ہے۔ شیخ ابوالکھیر ساسی فرماتے ہیں:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف مسئلہ خلافت میں تھا کیوں کہ حضور ﷺ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: اذا ملکت الناس فارفق بهم۔ (جب تو لوگوں پر حاکم ہو جائے تو نرمی سے پیش آنا) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اسی وقت سے خلافت کی امید پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس اجتہاد میں خطا وار تھے اور حضرت علی حق پر تھے کیوں کہ ان کی خلافت کا وقت حضرت علی کے بعد تھا۔

امام غزالی اور ابوشکور سالمی کے ان دونوں مختلف اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے حضرت شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں:

ان دونوں اقوال میں تطابق و توافق اس طرح ہوگا کہ ابتدا میں منشاے اختلاف تاخیر قصاص تھا۔ بعد ازیں خلافت کی امید پیدا ہوئی (اور خلافت کے حصول میں جنگ ہونے لگی) بہ ہر صورت یہ اجتہادی مسئلہ تھا اگر خطا وار ہیں تو ایک درجہ ثواب اور اگر حق پر ہیں تو دو درجے ثواب ملے کہ دس درجے ثواب ملے گا۔

مشاجرات صحابہ میں سکوت کا حکم:-

مشاجرات صحابہ میں سکوت کا حکم کرتے ہوئے مجدد صاحب اسی مکتوب میں آگے فرماتے ہیں:

اے برادر! ان سلسلے میں سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں سکوت اختیار کیا جائے کیوں کہ حضور ﷺ نے ان کے آپس کے اختلاف میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اِيَّاكُمْ وَ مَا شَجَرَ بَيْنَ اصْحَابِي (میرے صحابہ کے آپس کے اختلاف میں خاموش رہو) اور فرمایا: ”جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو زبان گالو میں رکھو!“ فرمایا: ”میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! انہیں اعتراضات کا نشانہ نہ بناؤ!“ امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ

”اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اِيَّاكُمْ وَ مَا شَجَرَ بَيْنَ اصْحَابِي (ان کے آپس کے اختلاف میں خاموش رہو) اور فرمایا: ”جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو زبان گالو میں رکھو!“ فرمایا: ”میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! انہیں اعتراضات کا نشانہ نہ بناؤ!“ امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ

البتہ یزید فاسقوں کے گروہ میں شامل ہے اس کی لعنت میں توقف اور سکوت اس لیے ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ شخص معین اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس پر لعنت جائز نہیں الا یہ کہ اس کے خاتمہ بالکفر کا یقین ہو جیسا کہ ابولہب اور اس کی بیوی ہیں۔ اہل سنت کے سکوت کے یہ معنی برگز نہیں کہ وہ مستحق لعنت نہیں بل کہ اس کا ملعون ہونا آیت کریمہ ان الذین یؤذون اللہ ورسوله لعنہم اللہ (بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے) سے ثابت ہے۔

آخری گزارش:-

مکتوب کا اختتام کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس دور میں اکثر لوگوں نے خلافت و امامت میں بحث شروع کی ہوئی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مخالفت کو اپنا نصب العین بنایا ہوا ہے۔ جہلا مؤرخین اور مردگان اہل بدعت کی تقلید میں صحابہ کرام کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور ان نفوس قدسیہ کی طرف نامناسب باتیں منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے عوام کی ضرورت اور خیر خواہی کے پیش نظر اپنے علم کے مطابق جو کچھ جانتا تھا سپرد قلم کر کے دوستوں اور عزیزوں کو ارسال کیا کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا ظهرت الفتن، او قال: البدع و سبت اصحابی فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين لا يقبل الله حروفا و لا عدلا۔ (جب فتنے ظاہر ہوں یا بدعت کا رواج ہونے لگے اور میرے صحابہ پر دشنام طرازی ہونے لگے پس عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے ورنہ اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت سے نہ ان کے نواقیل اور نہ فرض قبول کیے جائیں گے) چنانچہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات کو مدار اعتقاد بنانا چاہیے اور زید و عمرو کی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ من گھڑت افسانوں کو مدار اعتقاد بنانا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے صرف گروہ بندی کی غلبہ ضروری ہے جس پر نجات کا مدار ہے اس کے علاوہ امید نجات کہیں بھی مالست نہیں کی جا سکتی۔

السلام علیکم و علی سائر من اتبع الہدای و السلام علی من اعقبہ الصلوات

عليه و على الله الصلوة و السلام۔ (ترجمہ ملخصاً)

سردست اپنے ائمہ کرام کی کتابوں کے حوالوں سے یہ مختصر رسالہ پیش کر رہا ہوں اگرچہ اس کے علاوہ دوسری عبارتیں بھی ہیں، لیکن ہم نے اپنے ائمہ کرام کی عبارات کو کافی سمجھتے ہوئے دوسری عبارتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔

یہ پوری بحث جنگ جمل و صفین کے شرکاء کے بارے میں ہے جن کے سربراہ حضرات صحابہ کرام تھے، لیکن جنگ نہروان کے شرکاء جو کہ محققین کے قول کے مطابق نہ صحابہ کرام تھے اور نہ وہ مجتہد تھے، بہ این ہمہ حضرت علی کے لشکر سے علاحدہ ہو لیے اور خواہ مخواہ آپ کی تکفیر کی ایسے لوگ قاسق ہیں البتہ ان کے کفر میں اختلاف ہے تاہم عدم تکفیر کا قول راجح ہے۔ صحیح روایات کے مطابق خود حضرت علی نے ان کی تکفیر سے انکار کیا ہے جیسا کہ امام قسطلانی نے ”ارشاد الساری شرح بخاری“، امام نووی نے ”شرح صحیح مسلم“، ملا علی قاری نے ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“ اور امام ابن ہمام نے ”فتح القدیر“ میں اور دوسرے علما نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کی تحقیق کی ہے۔ ہم نے یہ خوف طوالت ان کتابوں کی عبارتیں نقل نہیں کی ہیں۔ مزید تحقیق کے طالب ان کتابوں کی طرف رجوع کریں! فقط

عبد القادر محبت رسول ابن مولانا فضل رسول قادری بدایونی

كان الله لهما

تصدیقات علمائے بدایوں

۱۔ الجواب صحیح۔ نور احمد قادری

۲۔ صحیح الجواب۔ محمد نواز الحق عفی عنہ

۳۔ طائرہ المجیب المصیب لہو مقرون بالصواب۔ محمد فصیح الدین قادری

۴۔ عالم الحق و زعم الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

۵۔ عالم الحق و زعم الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

۶۔ عالم الحق و زعم الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

۷۔ عالم الحق و زعم الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

۸۔ عالم الحق و زعم الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

۹۔ عالم الحق و زعم الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

۱۰۔ عالم الحق و زعم الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
کے بارے میں کیے گئے چند سوالات کے جوابات

مجیب: خواجہ قطب الارشاد، شیخ الحدیث والتفسیر

علامہ محمد عبدالرشید جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ

آستانہ عالیہ قطب آباد شریف، جھنگ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت
رسل ربنا بالحق والحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله و لو كره المشركون۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
ليكون للعلمين نذيراً۔ هو الذي ارسل نبينا صلی اللہ علیہ وسلم رحمة للعالمين فادخل
تحت رحمته الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين فصلى الله تعالى وسلم و
بارك عليه وعلى آله واصحابه وكل منتسب اليه دائماً كما يحب ربنا و
يرضى و هو الولي الاعلى و قال في شان المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم
باحسان: رضى الله عنهم و رضوا عنهم و قال في مقام آخر في علو شانهم:
الذين امنوا بالله و رسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم
و نورهم و الذين كفروا و كذبوا بايتنا اولئك اصحاب الجحيم۔ و قال في حال
المنافقين و الرافضة و المتدعة: انا اطعنا سادتنا و كبراءنا فاضلونا السيئاً، ربنا
انهم ضعفين من العذاب و عنهم لعنا كبيراً

اما بعد...

آپ کا گرامی نامہ رمضان المبارک شریف کے اوائل میں موصول ہوا۔ اپنی علالت و بے
 فرصتی کی وجہ سے جواب دینے میں تاخیر رہی، والد صاحب کے مزار شریف کا کام بھی شروع تھا،
 حفاظ کی منزلیں بھی مننی تھیں، بخار نے بھی اپنا ناغہ نہ کیا، اس وجہ سے دیر ہو گئی، پھر آپ کے یکے
 بعد دیگرے دو مکتوب آئے، میں نے بھی سمجھا کہ سابقہ مکتوب کا جواب چاہتے ہیں، بغیر پڑھے
 ان کو رکھ دیا، اب تیسرا خط جب آیا ہے جس میں ایک مولوی صاحب کی تقریر اور حضرت امیر
 معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں سب و شتم اور ان کے والدین کے کفر لکھے ہوئے کو جب پڑھا تو طبیعت
 کی خرابی کے باوجود سہا پ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آمدہ سوالات کے جوابات لکھ دیتا ہوں کہ
 ایسے شقی القلب خبیث العقل کا جواب دینا باقی مشاغل کو چھوڑ کر لابدی اور ضروری ہے۔ ثابت کیا
 جائے گا کہ اس بے ہودہ شخص نے قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث پاک اور اجماع امت کی
 مخالفت کی ہے، نیز سامعین کے اعتقادات کو برباد کرنے کے لیے ڈیڑھ دو گھنٹہ بیان کیا ہے اس
 کا جواب دینا لازم ہے۔

اذا كان الغراب دليل قوم سيهنتهم ، طريق الهالكين

”جس قوم کا راہ نما کو اہود قوم کی مرداروں کی طرف ہی رہ نمائی کرے گا۔“

سوال 1: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امین اسرار نبوت، کاتب الوحی، خال المؤمنین اور رضی اللہ
 عنہ کہا جاتا ہے یا نہ؟

الجواب: جانتے ہیں۔ عام کا صہ ہے کہ کوئی اعلیٰ درجہ کی یونیورسٹی یا کالج ہو تو اس میں داخلہ کے
 لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جب کہ عام کالجوں میں داخلہ کے لیے صرف یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ
 پہلے درجہ کا امتحان پاس کر لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس گاہ کوئی عام درس گاہ نہ تھی، بل
 کہ دنیا بھر میں لامتناہی تربیت گاہ تھی، اس میں داخلہ کے لیے بھی رتب العالمین جل جلالہ
 نے ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے جس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے:

اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظيم۔

(پارہ ۱۲۶، حجرات ۳)

میں ان کا دل امتحان کرنے کے لیے پروردگاری کے لیے پرکھ لیا ہے ان کے لیے

مغفرت و اجر عظیم۔

و الزمهم كلمة التقوى و كانوا احق بها و اهلها۔ (پارہ ۲۶، الفتح ۲۶)
 ”اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل
 تھے۔“ (کنز الایمان)

ممتحن لوگ امتحان لے کر جن لوگوں کو پاس کر دیتے ہیں اور ان کو نمبر دے دیتے ہیں اس
 میں غلطی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور سے کب غلطی ممکن ہے، ادنیٰ
 خیال غلطی کا بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

و كان الله بكل شيء عليما۔ (پارہ ۲۶، الفتح ۲۶)

”اور اللہ عزوجل سب کچھ جانتا ہے۔“ (کنز الایمان)

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیم اور ازلی علم کے بعد ان کو جانچ پرکھ کر اس چیز کا حق دار بنا دیا
 اور ثابت کر دیا کہ حضور ﷺ کی درس گاہ اور تربیت گاہ میں داخلہ کی اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں اور
 یہی لوگ اس شرف کے حق دار ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پسند نہ ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور اس
 کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بل کہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا۔ فرمایا:

فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا۔ (پارہ ۱۱، البقرہ ۱۳۷)

”پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا کہ تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔“

(کنز الایمان)

تو جو ان کو نہ مانے اس کے بارے میں فرمایا:

و ان تولوا فانما هم في شقاق (پارہ ۱۱، البقرہ ۱۳۷)

”اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔“ (کنز الایمان)

نہ ان کی دنیا ہے نہ آخرت اور نہ ہی ان کے اعمال ظاہری و باطنی سے کوئی تعلق بل کہ وہ تمام
 اعمال ہباء منشورا ہو جائیں گے اور یہ صرف صحابہ تک محدود نہ رکھا، بل کہ سورہ توبہ میں فرمایا:

و الذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ (پارہ ۱۱، التوبہ ۱۰۰)

”اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ عزوجل ان سے راضی اور وہ اللہ

عزوجل سے راضی۔“ (کنز الایمان)

تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ آپ کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے۔ یعنی حضرت امیر

معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے۔

رسول تھیں اور ازواجِ نبی ﷺ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو
خال المؤمنین کہتے ہیں۔“

نوٹ: شیعی محشی کو اتنا معلوم نہیں کہ ابوسفیان کی بیٹی کا نام اُمّ حبیبہ ہے یا صفیہ، یہ کوئی تعجب کی
بات نہیں اس لیے کہ جس گھر کے ساتھ کسی کے روابط اور تعلقات نہ ہوں اس گھر کے افراد سے
واقفیت نہیں ہو سکتی روافض کو چوں کہ اہل بیت رسول ﷺ سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں پھر واقفیت
کیسے ہوگی؟ کچھ بھی ہو، سنی سنائی باتوں سے یہ تو لکھ دیا کہ وہ خال المؤمنین ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا:
گو دشمنی سے کرتے ہیں کرتے تو یاد ہیں میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں

کاتب الوحی:-

قرآن مجید چوں کہ الہامی کتاب ہے، اس کے تعارف کے لیے بھی آسمانی کتاب درکار
ہے، آسمانی کتاب کی اشاعت کا انحصار آسمانی حفاظت اور بقا پر ہے، اس واسطے رب تعالیٰ نے
قرآن مجید میں فرمایا:

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ (پارہ ۱۲، ۱۳، ۱۴)

”بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہ بان ہیں۔“

(کنز الایمان)

اب جس پر نازل ہوئی اس کا امین ہونا اور لانے والے کا امین ہونا بھی ضروری ہے۔ لانے
والے کو روح الامین کا لقب عطا فرمایا اور جس پر نازل ہوئی اہل کے حافظے اور یادداشت کی
ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی۔ فرمایا:

منقرنك فلا تنسى۔ (پارہ ۲۰، ۲۱، ۲۲)

”اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔“ (کنز الایمان)

انسانوں تک پہنچانے والا امین ہو۔ پہنچانے کے دو ذریعے ہیں: وقتی اور دائمی؛ وقتی یہ کہ
حضور ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے تلاوت کر کے جیسی نازل ہوئی تھی ستا دی۔ یہ حضور ﷺ کی
ذات تک تھا، خود کیا، صحابہ کبار کو بھی حکم دیا۔ دائمی یہ ہے کہ اس کتاب کی کتابت کا انتظام فرمایا،
کتابت کا فریضہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے لیے مقرر فرمائیں جو امین ہو۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی جا چکی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب الوحی تھے۔

”معانی الاخبار“ شیخ صدوق قمی ص 346 طبع جدید مطبع حیدری، تہران؛ اس میں ایک پورا باب ہے، جس کا عنوان ہے:

”استعانة النبي ﷺ بمعاوية في كتابة الوحي“

یعنی نبی ﷺ کا کتابت وحی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدد حاصل کرنا۔

”انوار نعمانیہ“ محدث نعمت اللہ الجزائری کے ص 247 پر ہے:

و كذلك جعل معاوية من الكتاب قبل موته بسنة اشهر بمثل هذه المصلحة و ايضا عثمان و اضرابه ما كانوا يحضرون الا في المسجد مع جماعة الناس فما يكتبون الا ما نزل به جبرئيل بين الملاء۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ نے اپنی وفات سے چھ ماہ پہلے اس مصلحت کی بنا پر کاتب وحی مقرر فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی مثل کاتب وحی مقرر فرمائے جو مسجد نبوی میں حاضر ہو کر وہی قرآن لکھتے تھے جو ظاہر باہر نازل ہوتا تھا۔

محدث نعمت اللہ الجزائری کو یہاں دو باتوں کا اعتراف ہے:

- ۱- یہ کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی مقرر فرمایا۔
- ۲- یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دیانت و امانت میں کوئی شبہ نہیں، وہ وہی قرآن لکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا۔

”تنقيح المقال في علم الرجال“ معروف بہ ما مقانی ص 222 پر حروف تہجی کے لحاظ سے باب میم میں لکھا ہے: (یہ کتاب شیعہ کے نزدیک اسمائے رجال میں لائٹنی ہے)

فهو معاوية بن ابي سفيان اسمه صخر بن حرب بن امية بن عبد الشمس بن عبد مناف يكنى ابا عبد الرحمن القرشي الاموي كاتب رسول الله ﷺ ولي الخلافة حين سلم الامر اليه حسن بن علي عليهما السلام و صالحه و ذلك في شهر ربيع الآخر او جمادى الاولى سنة احدى و اربعين و مات يوم الخميس ثمان بقين من شهر ربيع الثاني سنة اربعين و مائة

ابو سفيان بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف
ابو سفيان بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف

نے صلح کر لی اور خلافت ان کے حوالے کی تو یہ والی خلافت بنے۔ یہ صلح ربیع الآخر یا جمادی الاولیٰ 41ھ میں ہوئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب 60ھ میں بہ عمر 78 برس ہوئی۔“

یعنی شیعہ فن رجال کے ماہر علامہ مامقانی نے یہ تسلیم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب الوحی مقرر فرمایا۔ محدث نعمت اللہ الجزائری کی تحریر سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چھ ماہ قبل مصلحت کے طور پر ان کو کاتب وحی مقرر فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ انتخاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ حکم خداوندی کیا تھا، خدا ورسول کے اس انتخاب سے ناراض ہو کر اس حقیقت کو فسخ کرنے کے لیے بہت کوششیں لوگوں نے کی ہیں جس میں ”فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب“ میں موجود ہے، مگر اصل حقیقت مذکورہ چار کتابوں سے ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی بہ امر خداوندی مقرر فرمایا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کا عامل (گورنر) بنایا تھا۔ کیا غیر مومن بھی کاتب الوحی مقرر ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاتب الوحی ہونا ایک تاریخی حقیقت ہے، پھر بھی اگر ہٹ دھرمی کر کے یہ کہا جائے کہ مانا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صہرتھے، تمام امت کے ماموں تھے، کاتب وحی تھے، مگر ان تمام اوصاف کے ہوتے ہوئے وہ مومن نہ تھے۔ (معاذ اللہ)

پھر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کسی غیر مومن کو بھی سونپی جاسکتی ہے؟ قرآن پاک سے رہ نمائی ملتی ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔

(پارہ ۱۰، سورہ توبہ ۲۸)

”مشرک زے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔“ (کنز الایمان)

یہ آیت کریمہ 9ھ میں نازل ہوئی۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں: ظاہری اور باطنی: ظاہری نجاست پانی کے ساتھ دھونے سے بھی دور ہو جاتی ہے، مگر نجاست باطنی پانی کے ساتھ دھونے سے بھی دور نہیں ہوتی۔ تو ان کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نجاست باطنی تھی (معاذ اللہ)، وہ پانی کے ساتھ دھونے سے بھی نہ اتر سکتی تھی تو ان کو کاتب وحی مقرر کیا گیا؟

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تمام شہروں کے لیے ایک گشتی مراسلہ لکھا کہ صفین میں ہمارے اور اہل شام کے درمیان جو جنگ ہوئی اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو کیوں کہ ہمارا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، ہماری اسلام کی دعوت ایک ہے، ہم شامیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان و یقین میں زیادتی کا دعویٰ نہیں کرتے اور نہ وہ ہم پر زیادتی کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان و یقین میں ہم دونوں فریق برابر ہیں، اختلاف صرف دم عثمان میں ہے اور ہم اس سے بری ہیں اور یہی تنازعہ کی وجہ ہے۔“

اس عبارت سے چند وجوہ ثابت ہو گئے:

- ۱- اختلاف صرف قتل عثمان میں ہے۔
- ۲- حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چٹھی سے بنیادی طور پر یہ بات ثابت ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ تو خلافت کے مدعی تھے نہ انہوں نے حکومت چھیننے کے لیے یہ جنگ لڑی بل کہ اس کی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ تھا اور یہ مطالبہ ہر متعلقہ انسان کا قانونی حق ہے۔

ضمناً چند ایک اور امور بھی واضح طور پر سامنے آ گئے:

- ۱- حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس امر کا اعلان کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان اور ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں، اگر کسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے واقعی تعلق ہے۔
- تو اسے حضرت کی یہ بات ماننے میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے اور اگر اسی پر اصرار ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان سے محروم ہیں (معاذ اللہ) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق وہ دراصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان کی نفی کر رہا ہے کیوں کہ ان کا اعلان ہے کہ ایمان میں ہم برابر ہیں، لہذا اگر معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان سے خالی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے برابر ہوئے۔ (ثم معاذ اللہ)

- ۲- گشتی مراسلہ بھیجنے کا محرک کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اس بے ہودگی سے روکنے کے لیے حقیقت بتادی۔

اس سے ظاہر ہوا کہ یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے کہ منبر پر حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، یہ دراصل اپنے اس گھناؤنے فعل پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے کہ برا بھلا کہنے کی

ابتدا حییان علی کی طرف سے ہوئی اور اس سلسلہ میں اب وہ تو معذور ہیں۔

”نہج البلاغہ“ کی شرح ”درۃ النجیہ“ ص 301 پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اعلان کی تائید ہے، وہ یوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا:

قال معاویة رضی اللہ عنہ لم اقاتله لانی افضل منه ولكن اقاتل ليدفع الی قلة عثمان رضی اللہ عنہ۔

”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے میری جنگ اس بنا پر نہیں ہوئی کہ میں ان سے افضل ہوں بل کہ اس لیے ہوئی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل میرے حوالے کریں۔“

دونوں عبارتیں ”نہج البلاغہ“ کی شرح کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں ہوں، دونوں نے جنگ کی وجہ قصاص عثمان کو قرار دیا ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہ تھی۔ بات تو صاف ہے، مگر یار لوگ کہتے ہیں کہ ”نہج البلاغہ“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبہ 16 سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف ان کے ظاہری اسلام کی بات کی تھی، باطن میں تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ خطبہ 16 کی عبارت یہ ہے:

قال ما اسلموا و لكن استسلموا و اسروا الکفر فلما وجدوا اعوانا عليه اظهروا۔

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ مسلمان نہیں ہوئے بل کہ ظاہری طور پر اسلام کو مان لیا اور ان کے باطن میں کفر پوشیدہ ہے جب انہوں نے کفر میں مددگار پائے تو کفر کو ظاہر کر دیا۔“

”نہج البلاغہ“ کے شارحین سب نے بھی اعتراض یا تاویل کی ہے۔ اس کے جواب میں کلایات نے لکھے کہ یہ کلام خود لفظ خود لفظ لیا گیا ہے، آسان بات یہ تھی کہ کہہ دیتے کہ حضرت نے کفر کیا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ”نہج البلاغہ“ میں یہ لفظ کلام کا ہونا متعین لائق چکا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ”نہج البلاغہ“ میں یہ لفظ کلام کا ہونا متعین لائق چکا ہے۔ جیسے ”درۃ النجیہ“ میں ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ یہ خطبہ اس وقت کا ہے جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور گشتی مراسلہ جنگ کے بعد اور صلح ہونے کے بعد کا ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت پہلے کی تاریخ ہے۔ اب ذرا ظاہری اور باطنی ایمان پر اصولی بات کی جائے۔

۱- ہم ظاہری شریعت کے مکلف ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ظاہری ایمان کی شہادت دے دی۔ عقیدہ باطنی چیز ہے، جس کی حقیقت معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔

۲- حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم اور اہل شام ایمان میں برابر ہیں، تو دوسری توجیہ کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جیسے میں ظاہر مسلمان ہوں ویسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ظاہر میں مسلمان ہیں، جیسے باطن میں وہ ہیں ویسے ہی میں ہوں۔ (معاذ اللہ)

۳- پھر جو آپ نے فرمایا: ربنا واحد.... اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جیسے ظاہر میں میرا رب ایک ہے اور رسول بھی اور دعوت اسلام بھی ایک ہے باطن کا حال دوسری شق جیسا ہوا۔ (معاذ اللہ)

۴- ”نہج البلاغہ“ مصری ص 105 پر ”قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبلة“ تمہارے اور اہل قبلہ کے درمیان لڑائی کا دروازہ کھل گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو بات صاف کر دی، مگر اہل قبلہ کی اصطلاح کا مفہوم کہیں سے ڈھونڈنا پڑے گا۔ کیا اسلامی تاریخ میں یا دینی لٹریچر میں اہل قبلہ کی اصطلاح کفار کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے؟

اگر ایسا نہیں اور یقیناً نہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایمان سے خالی ثابت کرنے کے جنون میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کیوں مولیٰ جا رہی ہے؟

یہ حرکت حسب علی تو ہرگز نہیں کیوں کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت ظاہر ہے، البتہ بغض معاویہ کے قبیل سے ضرور ہے اور جہاں بغض ہو وہاں انصاف کہاں ہوتا ہے! عجبان علی کی قدر و قیمت خود مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے متعین فرمادی۔

”نہج البلاغہ“ مصری ص 179 پر ہے:

قال لوددت و الله ان معاوية صار فني بكم صراخ العنابر بالظلم

فاخذ مني عشرة منكم و اعطاني رجلا منهم۔ (نسخ البلاغ طبع جدید صفحہ ۲۷۶)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم میں دوست رکھتا ہوں اس بات کو کہ کاش امیر معاویہ میرے ساتھ سودا کر لیتے جیسے کوئی شخص بیع الصرف کرے کہ سونے کے دینار کے بدلے چاندی کا ایک درہم لے لے، پس امیر معاویہ اپنا ایک آدمی مجھے دے دے اور میرے دس آدمی لے لے۔“

اس عبارت سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں تک شیعانِ علی اور شامی فوج کے ایمان کا تعلق ہے وہاں تو ایک اور دس کی نسبت ہے یعنی اہل شام شیعانِ علی کے مقابلہ میں دس گنا زیادہ صاحبِ ایمان و یقین، وقادار، ایثار پیشہ، صادق القول اور امین تھے، ادھر تو 10/9 حصہ دین تقیہ میں مضمون ہے جیسے ”اصول کافی“ میں ہے:

تسعة اعشار الدين في التقيۃ۔

نو حصے دین تقیہ میں، ایک حصہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، زواری وغیرہ میں ہوا۔

اہل سنت و جماعت بن کر سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کی عزت و عظمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لا يعلمون۔

(پارہ ۱۸، النفاقون ۸)

”اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔“ (کنز الایمان)

اور سورہ حدید میں ارشاد فرمایا:

و الذين آمنوا بالله و رسوله اولئك هم الصديقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم۔ (پارہ ۱۹، الحدید ۱۹)

”اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے اور ان کے لیے نور ہے۔“

(کنز الایمان)

”اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔“ (کنز الایمان)

اہل سنت و جماعت کے نزدیک دونوں فریقوں کے مقتولین کے بارہ میں فیصلہ خود مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمادیا:

”قتلای و قتلای معاویۃ فی الجنت۔“

”جو میرے گروہ سے قتل ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔“

اور جو زندہ ہیں ان کا فیصلہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کر دیا اور مصالحت کر کے اپنی خلافت ان کے سپرد کر دی، شیعہ کے نزدیک امام کی ہر بات نص ہوتی ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کا خلافت سپرد کر دینا شیعہ مذہب کے لحاظ سے نص قطعی سے ثابت ہوا۔

سوال 4: امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد قائم ہوئی خلافت جائز تھی یا ناجائز؟ جن علمائے اس حکومت کو خلافت راشدہ کہا انہوں نے حق کہا یا خطا کی؟

الجواب: اس کا جواب سوال 3 کے جواب میں آچکا ہے، شیعوں کو اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے، نیز امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ رجال کشی مطبوعہ بمبئی ص 72 پر ہے:

امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما اور قیس بن سعد بن عبادہ جو حضرات حسنین کے ساتھ تھے شام میں پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اعدا آنے کی اجازت طلب کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور خطبا جمع ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو کہا:

یا حسن! قم، فبايع! فقام و بايع ثم قال للحسين عليه السلام: قم، فبايع! فقام و بايع۔ ثم قال: يا قيس! قم، فبايع! فالتفت الي الحسين عليه السلام ينظر ما يامرہ فقال: يا قيس! انه امامي يعني امام حسن عليه السلام۔

امام حسن کو امیر معاویہ نے کہا: اٹھو اور بیعت کرو! وہ اٹھے اور بیعت کی۔ پھر امام حسین کو کہا: اٹھو اور بیعت کرو! انہوں نے بھی اٹھ کر بیعت کر لی۔ پھر قیس کو کہا: اٹھو اور بیعت کرو! انہوں نے امام حسین کی طرف التفات کی اور جواب کے طور پر

منتظر تھے۔ امام حسین نے فرمایا: اے قیس! یقیناً امام حسن میرے امام ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب میرے امام حسن نے بیعت کر لی ہے، تمہیں کیوں شہید پیدا ہوا۔ اس بیعت سے پہلے جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے مصالحت کا ارادہ کیا تو شیعوں کو اعتراض ہوا، اس کے جواب میں امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

و الله ان معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون انهم لي شيعة ابتغوا قتلى و انتهبوا ثقلی و اخذوا مالي و الله لئن اخذ من معاوية عهدا احقن به دمی و او من به فی اهلی خیر من ان یقتلوننی فتضیع اهل بیتی و اهلی و الله لو قاتلت معاوية لاخذوا برقبتي حتی یدفعونی الیه سلیمًا و الله ان اسالمه و انا عزیز خیر من ان یقتلنی و انا اسیر او یمن علی فیکون سنة بنی هاشم اخر الدهر و لمعاوية لا یزال یمن بها و عقبه علی الحی منا و المیت۔ (احتجاج طبری ص ۲۹۰ مطبوعہ سعید مشہد مقدس)

جب امام حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر کے زخمی ہو کر مدائن میں آئے تو زید بن وہب جہنی نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے! لوگ حیران ہیں اس مصالحت میں آپ نے کیا حکمت دیکھی؟ تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا: خدا کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجھے اپنے شیعوں سے بہتر ہیں، مجھے انہوں نے قتل کرنا چاہا، میرا اثاثہ چھینا، میرا مال لیا، خدا کی قسم اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے میں عہد لے لیتا ہوں جس کے طفیل اپنے آپ کو قتل ہونے سے بچا لوں اور میں اپنے اہل میں مامون ہو جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ شیعوں نے مجھے قتل کر دیں، میرے اہل بیت اور میرے اہل کو تباہ کر دیں اور خدا کی قسم اگر امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا تو میری گردن پکڑ کر امیر معاویہ کے حوالہ کر دیتے، خدا کی قسم اگر میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہستی کا سوال کر لوں جب کہ عزت و آبرو والا ہوں تو میں بہتر رہوں گا اللہ سے کہ وہ مجھے امیر کے قتل کر دے یا مجھ پر احسان کرے اور یہ اس کا اجر ہے۔

اللہ کے فضل سے

بلوایوں میں سے شامل ہو گئے تھے جن کی تعداد بیس ہزار سے زائد تھی جیسے کہ ”ناسخ التواریخ“ میں موجود ہے جب کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا مطالبہ دم عثمان کا ہے، ان کے قاتل ہمارے حوالے کر دو تو ہم آپ کے ساتھ بیعت بھی کر لیتے ہیں اور آپ کو متفقہ خلیفہ سمجھتے ہیں تو بیس ہزار سے زائد آدمی کھڑے ہو گئے اور کہا: ہم عثمان کے قاتل ہیں، ہم سے کون قصاص لیتا ہے؟ وہی لوگ امام حسن رضی اللہ عنہ کو دھوکا دے کر لشکر میں شامل ہو گئے ان کا ارادہ بھی غلط تھا جس کو امام حسن رضی اللہ عنہ نے ”احتجاج“ کی عبارت میں واضح کر دیا۔

اب تم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی بیعت کا کیا جواب دو گے؟ بیعت لینے والا جب یہ قول تمہارے مسلمان نہیں اور وہاں جنگ صفین میں قتل ہو جاتا تو کوئی مسلمان ان کا جنازہ نہ پڑھتا اور نہ اسے کوئی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیتا تو بیعت کرنے والوں کا حال ان کے نزدیک کیا ہوگا؟

کیا یہ مولوی سنی کہلانے کا حق دار ہے؟ ایسے منافق سے بچو!!

سوال 5: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب جو احادیث شریف کی کتابوں میں ملتے ہیں قابل قبول ہیں یا قابل رد؟

الجواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا۔ (الحدیث)

”اے اللہ! معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا!“

دوسری حدیث میں فرمایا:

اللّٰهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَ قَدْ الْعَذَابَ۔ (الحدیث)

اے اللہ! معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچائے رکھنا!

اور آپ ﷺ کی دعائے مبارک بارگاہِ خداوندِ تعالیٰ میں یقیناً مقبول و مستجاب ہے۔

حافظ ابن حجر کی بیحد اپنی کتاب ”تطہیر الجنان“ ص ۱۰۱، مطبوعہ لکھنؤ بغداد میں فرماتے ہیں:

وقال المدائنی كان زيد بن ثابت يكتب الوحي و كان معاوية يكتب

لنبي ﷺ فيما بينه و بين العرب اى من وحي و غيره فهو امين

رسول الله ﷺ على وحي ربه و ناهيك بهلنا المرحمة الرابعة

محدث مدائنی نے فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے

ملائکہ پر نازل ہونے والی وحی کو بھی لکھتے اور اہل عرب کی طرف جو خطوط بھیجے جاتے تھے وہ بھی لکھتے تھے اور وہ اللہ کے رسول ﷺ کے امین تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے رب کی وحی پر ایسے شخص کے مرتبہ رابعہ کے خلاف باتیں کرنے سے بچو!

فقيل يا ابا عبد الرحمن ايها افضل معاوية او عمر بن عبد العزيز فقال: و الله ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاوية مع رسول الله ﷺ افضل من عمر بالف مرة، صلى معاوية خلف رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: سمع الله لمن حمده و قال معاوية: ربنا لك الحمد۔ فما بعد هذا الشخص الاعظم اذا كان مثل ابن المبارك يقول في معاوية ذلك و ان تراب انف فرسه فضلا عن ذاته افضل من عمر بن عبد العزيز الف مرة فاي شبهة تبقى لمعانلو اي دخل يمسك به غبي او جامد۔

ابو عبد الرحمن سے سوال ہوا (جو عبد اللہ بن مبارک ہیں) کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبد العزیز ﷺ سے کون افضل ہے؟ تو ابو عبد الرحمن نے فرمایا: خدا کی قسم جو غبار امیر معاویہ ﷺ کے گھوڑے کی ناک میں حضور ﷺ کی معیت میں چھٹی تھی وہ خاک ہزار درجہ عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے، امیر معاویہ ﷺ نے حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی جب حضور ﷺ نے سمع الله لمن حمده پڑھا، امیر معاویہ ﷺ نے ربنا و لك الحمد کہا، پھر اس سے بڑھ کر عظیم شخص کون ہوگا اور جب عبد اللہ بن مبارک جیسا آدمی (جس کی امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث نے اپنی صحیح البخاری میں تقریباً چار سو روایات لی ہیں) امیر معاویہ ﷺ کے حق میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی عمر بن عبد العزیز سے ہزار درجہ بہتر ہے تو مخالفت کرنے والوں کے لیے اب کون سا شبہہ باقی رہتا ہے اور اس غبی

اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ وہ تمسک پکڑے۔

ابو عبد الرحمن سے سوال ہوا (جو عبد اللہ بن مبارک ہیں) کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبد العزیز سے کون افضل ہے؟ تو ابو عبد الرحمن نے فرمایا: خدا کی قسم جو غبار امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں حضور ﷺ کی معیت میں چھٹی تھی وہ خاک ہزار درجہ عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے، امیر معاویہ نے حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی جب حضور ﷺ نے سمع الله لمن حمده پڑھا، امیر معاویہ نے ربنا و لك الحمد کہا، پھر اس سے بڑھ کر عظیم شخص کون ہوگا اور جب عبد اللہ بن مبارک جیسا آدمی (جس کی امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث نے اپنی صحیح البخاری میں تقریباً چار سو روایات لی ہیں) امیر معاویہ کے حق میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی عمر بن عبد العزیز سے ہزار درجہ بہتر ہے تو مخالفت کرنے والوں کے لیے اب کون سا شبہہ باقی رہتا ہے اور اس غبی

كانوا يصبحون شعنا و قد باتوا سجدا و قياما يراو حون بين جباههم
و خلودهم و يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كان بين
اعينهم ركب المعزى من طول سجودهم اذا ذكر الله حملت اعينهم
حتى تبل جيوبهم و مادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا
من العقاب و رجاء للثواب۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو میں نے آنکھوں سے دیکھا میرے شیعوں میں سے میں نے
کسی کو ان جیسا نہیں دیکھا اس لئے کہ وہ دن کو (میدان جنگ میں) پراگندہ بال اور
غبار آلودہ چہروں سے ہوتے تھے اور رات سجدہ اور قیام میں بیدار ہو کر گزارتے تھے
وہ راحت حاصل کرتے تھے اپنی پیشانیوں اور رخساروں کے درمیان یعنی سجدوں
میں گویا وہ آگ کے انگاروں پر کھڑے ہوتے تھے آخرت کی یاد کی وجہ سے
قیامت کے ذکر سے انگاروں کی مانند جلنے والوں کی طرح مضطرب ہو جاتے تھے
اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانیوں پر بکریوں کے
گھٹنوں کی طرح کو لمبے پڑے ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے پاس کیا جاتا
تو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امیدوں سے ان کی آنکھیں ایسے آنسو برساتیں
کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے اور خود وہ لرز جاتے جیسے کہ درختوں کے سخت تنے
سخت آندھی سے لرز جاتے ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دل میں صحابہ کرام کی شان کتنی بلند تھی کہ اپنے بے مقتدیوں
شیعوں کو ایسے کلمات بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی شان ایسی ہے کہ تم سے کسی کی وہ نہیں تو
منافقوں کے متعلق ان کے دل میں صحابہ کرام کے مخالفوں سے کتنی نفرت ہوگی۔ واحسرتاہ
آج کل کے نام نہاد سنی نماشیعوں کو خوش کرنے والے جو ابن سبا کی خباثوں پر عمل کرتے
ہیں اور اہل بیت کرام کی تابع داری کی طرف نہیں جاتے ایسے مبلغین کو امام بنانا ان کو دعوت دینا
اور ان کی تکریم کرنا کتنا برا ہوگا؟

سوال 6: بعض علمائے کرام فرماتے ہیں: جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی قسم کا طعن کرے وہ جہنم کا
کتاب ہے۔ کیا یہ درست ہے؟

الجواب: "احکام شریعت" اہل حضرت بریلوی مطبوعہ دارالافتاء دارالحدیث

”اللہ نے سورہ حدید میں صحابہ کرام کی دو قسمیں فرمائیں: ایک وہ کہ قبل فتح مکہ مشرف بہ ایمان ہوئے اور راہِ خدا میں مال خرچ کیا، جہاد کیا۔ دوسرے وہ کہ بعد فتح مکہ پھر فرما دیا:

وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنِيَّ-

دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کو فرماتا ہے:

اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيبها و هم فيما اشتهد
انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر و تلتفهم الملائكة هذا

يومكم الذي كنتم توعدون۔ (پارہ ۱۷، الانبیاء ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴)

”وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں وہ اس کی بھٹک نہ سکیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔“ (کزلایمان)

رسول اللہ ﷺ کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ جل جلالہ بتاتا ہے تو جو شخص کسی صحابی پر طعن کرنے وہ اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کا ذبیہ ہیں ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں، رب تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کا منہ بھی بند فرما دیا کہ صحابہ کرام ﷺ کے دونوں فریق سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا:

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ (پارہ ۱۸، الاحزاب ۸)

”اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔“ (کزلایمان)

اور اللہ جل جلالہ کو حسبِ شر ہے جو کچھ تم کرو گے۔ یہاں ہمہ میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ کرنا ان کے بعد جوئی کے اپنا سر کھاتے خود جہنم میں جائے۔

اللہ جل جلالہ نے انہیں اس میں شرح فرمائی ہے امام غزالی نے اس میں فرماتے ہیں:

اللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْكَلْبِ وَالْهَوَايَةِ

اللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْكَلْبِ وَالْهَوَايَةِ

اللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْكَلْبِ وَالْهَوَايَةِ

کو ایذا دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

من اذاهم فقد اذنی و من اذانی فقد اذی الله و من اذی الله فیوشک
الله ان یاخذہ۔ (الحدیث)

”جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اُس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی
اس نے اللہ عزوجل کو ایذا دی، جس نے اللہ عزوجل کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ
اسے گرفتار کرے۔“ والعیاذ باللہ تعالیٰ!

اب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں شیعہ کا حال
مختصر لکھتا ہوں، اس پر بھی غور کریں!

”حیات اعلیٰ حضرت“ کے ص 140 پر ایک استغنا آپ کے پاس آیا، مستقی قاضی فضل احمد

لدھیانوی 21 صفر 1339ھ۔ استغناء میں یہ تھا:

ایک رافضی نے کہا کہ آیت کریمہ ”انا من المعرّمین منتقمون“ کے اعداد

1202 ہیں اور یہی اعداد ابوبکر، عمر اور عثمان کے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟

الجواب: روافض لعنہم اللہ تعالیٰ کی بنائے مذہب ایسے ہی اوہام بے سرو پا پر ہے اور

اگر ہر آیت عذاب کے اعداد اسما اختیار کے مطابق کر سکتے ہیں اور ہر آیت ثواب کے

اعداد اسماے کفار سے کہ اسما میں وسعت وسیعہ ہے، ثانیاً امیر المومنین مولیٰ علی کرم

اللہ وجہ الکریم کے تین صاحب زادوں کے نام ابوبکر، عمر اور عثمان ہیں، رافضی نے

آیت کو ادھر پھیرا، کوئی نام بھی ادھر پھیر دے گا اور دونوں ملعون ہیں۔

حدیث شریف میں ہے: سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

گئے اور ارشاد فرمایا:

ارونی ابنی ماذا سمیتومہ

مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟

مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

حب۔

فرمایا:

نہیں، بل کہ وہ حسن ہیں۔

پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر تشریف لے گئے، فرمایا:
مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا؟
مولیٰ علی علیہ السلام نے عرض کی:

حرب۔

فرمایا:

نہیں، بل کہ وہ حسین ہیں۔

پھر حضرت محسن کی ولادت پر وہی فرمایا۔ حضرت علی نے وہی عرض کی۔ فرمایا:
نہیں، بل کہ وہ محسن ہے۔

پھر فرمایا:

میں نے اپنے ان بیٹوں کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پہ رکھے ہیں،
شیر، شبیر اور بشر حسن، حسین اور محسن۔ ان کے ہم وزن وہم معنی ہیں۔ اس سے مولیٰ
علی علیہ السلام کو سمجھ گیا ہوئی کہ اولاد کے نام اختیار کے ناموں پر رکھنے چاہئیں، لہذا ان کے
بعد صاحب زادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان اور عباس وغیرہم رکھے۔

جہاں رافضی نے اعداد غلط بتائے امیر المؤمنین عثمان غنی کے نام پاک میں الف نہیں
لکھا جاتا تو عدد 1201 ہیں نہ کہ 1202۔

۱۔ ہاں اور رافضی 1202 عدد کا ہے کے ہیں؟ ابن سبار اقصہ کے؟

۲۔ ہاں اور رافضی 1202 عدد ان کے ہیں، ابلیس بیزید ابن زیاد شیطان الطاق کلینی
ابن بابویہ جی طوسی جلی۔

۳۔ ہاں اور رافضی اللہ عزوجل فرماتا ہے:

ان اللین فرقوا دینہم و کاتوا شیعا لست منہم فی شیء۔

(پارہ ۸، الامام ۱۵۹)

”وہ جو لوگ اپنے دین کو جدا کر دیں اور شیعیان بن جائیں ان کو کئی گروہ ہو گئے اسے محبوب!

” (کنز العمال)

پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر تشریف لے گئے، فرمایا:
مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا؟
مولیٰ علی علیہ السلام نے عرض کی:
حرب۔
فرمایا:
نہیں، بل کہ وہ حسین ہیں۔
پھر حضرت محسن کی ولادت پر وہی فرمایا۔ حضرت علی نے وہی عرض کی۔ فرمایا:
نہیں، بل کہ وہ محسن ہے۔
پھر فرمایا:
میں نے اپنے ان بیٹوں کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پہ رکھے ہیں،
شیر، شبیر اور بشر حسن، حسین اور محسن۔ ان کے ہم وزن وہم معنی ہیں۔ اس سے مولیٰ
علی علیہ السلام کو سمجھ گیا ہوئی کہ اولاد کے نام اختیار کے ناموں پر رکھنے چاہئیں، لہذا ان کے
بعد صاحب زادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان اور عباس وغیرہم رکھے۔
جہاں رافضی نے اعداد غلط بتائے امیر المؤمنین عثمان غنی کے نام پاک میں الف نہیں
لکھا جاتا تو عدد 1201 ہیں نہ کہ 1202۔
۱۔ ہاں اور رافضی 1202 عدد کا ہے کے ہیں؟ ابن سبار اقصہ کے؟
۲۔ ہاں اور رافضی 1202 عدد ان کے ہیں، ابلیس بیزید ابن زیاد شیطان الطاق کلینی
ابن بابویہ جی طوسی جلی۔
۳۔ ہاں اور رافضی اللہ عزوجل فرماتا ہے:
ان اللین فرقوا دینہم و کاتوا شیعا لست منہم فی شیء۔
(پارہ ۸، الامام ۱۵۹)
”وہ جو لوگ اپنے دین کو جدا کر دیں اور شیعیان بن جائیں ان کو کئی گروہ ہو گئے اسے محبوب!
” (کنز العمال)

وإسماعیلیہ کے ہیں۔

۴- ہاں اور افضی! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؛

لهم اللعنة و لهم سوء الدار۔ (پارہ ۱۳، سورہ الرعد ۲۵)

”ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر۔“ (کنز الایمان)

اس کے عدد 644 ہیں اور یہی عدد ہیں شیطان الطاق طوسی حلی کے۔

۵- نہیں، اور افضی! بل کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے:

اولئك هم الصديقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم۔

(پارہ ۲۷، المائدہ ۱۹)

”وہی ہیں کامل سچے اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا

ثواب ہے۔“ (کنز الایمان)

اس کے عدد 1445 ہیں اور یہی عدد ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سعید کے۔

۶- نہیں، اور افضی! بل کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اولئك هم الصديقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم۔

(پارہ ۲۷، المائدہ ۱۹)

”وہی ہیں کامل سچے اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا

ثواب اور ان کا نور ہے۔“ (کنز الایمان)

اس کے اعداد 1792 ہیں اور یہی عدد ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد کے۔

۷- نہیں، اور افضی! بل کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و الذين امنوا بالله و رسله اولئك هم الصديقون و الشهداء عند

ربهم لهم اجرهم و نورهم۔ (پارہ ۲۷، المائدہ ۱۹)

”اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے اور

اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔“

(کنز الایمان)

آیت کے عدد 3600 ہیں، یہی عدد ہیں: صدیق، قاری، ذوالحجین، علی، طلحہ،

زبیر، سعد، سعید، ابو سعید، عبدالرحمن بن عوف کے۔

الحمد لله، آیت کریمہ کا تمام وکمال جملہ مدح بھی پیدا ہو گیا اور حضرات عشرہ مبشرہ کے اسمائے طیبہ بھی آگے جس میں اصلاً تکلف اور تصنع کو دخل نہیں۔

کچھ دنوں سے آنکھ دکھتی ہے، یہ تمام آیات عذاب و اسمائے شرار و آیات مدح و اسمائے اختیار کے عدد محض خیال کے مطابق کیے جن میں صرف چند منٹ صرف ہوئے، اگر لکھ کر اعداد جوڑے جائیں تو مطابقتوں کی بہار نظر آئے، مگر بعونہ تعالیٰ اس قدر بھی کافی ہے۔ **فلله الحمد و الله تعالى اعلم۔ فقیر محمد احمد رضا**
اب بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کا یہ مولوی مقرر معتقد ہے یا منکر؟ **تفترون علی الله الکذب و کفیٰ به العا مینا۔**

اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو ہدایت دے ایسے واپس آیات لوگوں سے نفرت کی قوت عطا فرمائے اور رافضیوں کے ساتھ ترک مولائت کلی کی سعادت حاصل ہو۔

سوال 7: جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو اہل بیت رسول کا دشمن اور اقتدار کا لاپٹی کہے اس شخص کے متعلق شرع شریف کا کیا حکم ہے؟

الجواب: مذکورہ بالا حوالہ جات میں اس سوال کا جواب آچکا ہے۔

مکتبہ مرآۃ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا "نیج البلاغہ" میں موجود ہے اس میں طرفین سے نہ خلافت کے حصول کا موقف تھا اور نہ ہی دنیا کمانے کا لالچ تھا، دونوں کا موقف صرف اور صرف

دم عثمان کا مطالبہ تھا امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تھی اس وقت شیعوں کے جو حالات تھے "احتجاج طبری" کے حوالہ سے وہ بیان ہو چکے ہیں اس کے بعد

جب شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو حسین کریمین اور قیس بن سعد بن عبادہ نے بہ طیب خاطر بیعت بھی کر لی تو اب لالچ کا تو مسئلہ ہی نہ رہا۔

آپ کے آخری مکتوب میں یہ چیز باقی رہ گئی جو مولوی مقرر نے بیان کیا:

"جناب معاویہ رضی اللہ عنہ ابتداء سے خلافت جناب علی رضی اللہ عنہ سے لے کر امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت تک اس کے ہاں یہ سب اور بائیں کا حکم بھی ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز

پڑھائی جائے اور اگر وہ جگہ مسلمین میں ملے ہو جائے تو اہل مدینہ میں کوئی

دورانِ تقریر یہ بھی کہا کہ حجر بن عدی، عمار بن یاسر اور اویس قرنی کے قتل کا معاملہ بھی امیر معاویہ کے پلڑے میں جاتا ہے۔“

الجواب: اس تقریر سے مقرر نے اپنے فاسد عقیدہ کے ماتحت کئی غلطیاں کی ہیں: پہلی غلطی یہ ہے کہ بغاوت کے معنی کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔

دوسری غلطی یہ ہے کہ اہل بغاوت کا موقف کیا تھا؟ اسے علم ہی نہیں۔

تیسری غلطی یہ ہے کہ صفین کے بعد حضرت علی ؑ نے جو گشتی مراسلہ سب کی طرف بھیجا

اس پر حضرت علی ؑ کا کیا حال بنے گا؟

چوتھی غلطی یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین ؑ جنہوں نے امیر معاویہ ؑ کی بیعت کی

تھی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟

اس کی تقریر سے قرآن مجید کا انکار، حدیث شریف کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اب وہ

مسلمان بھی رہا یا نہ رہا اب اس کے جواب سنو!

پہلی بات یہ ہے کہ باغی کی تعریف میں یہ عنصر شامل ہے کہ وہ حکومت کے بنیادی دستور کو

تسلیم نہ کرے اور حکمِ ران کی مخالفت اس بنا پر کرے کہ اپنے آپ کو حکومت کے لیے اس کے

مقابلے میں زیادہ مستحق سمجھے اور اس سے خلافت چھیننا چاہے۔

لیکن امیر معاویہ ؑ اور حضرت علی ؑ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا سبب مذکورہ

باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ امیر معاویہ ؑ نے اعلان کیا کہ میں قصاصِ عثمان کا

مطالبہ کر رہا ہوں اور حضرت علی ؑ نے گشتی مراسلہ میں وضاحت کر دی کہ ہمارا اختلاف صرف

دمِ عثمان میں ہے۔ گشتی مراسلہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب دونوں فریق وضاحت کر رہے ہیں تو بغاوت کا سوال ہی پیدا

نہیں ہوتا بلکہ قصاصِ عثمان میں اختلاف کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا، کوئی تیسرا آدمی یا گروہ

دہائی دینے لگے کہ نہیں یہ بغاوت ہے بات مردود ہوگی۔ ع من چہ سرانم و طیبہ من چہ سراہ

بھائیو! امیر معاویہ ؑ سے تمہیں بغض سہی، حضرت علی ؑ کا تو کچھ عیا کر لو، جس کے

ساتھ جتنی وہ حقیقت سے نا آشنا ہے اور تمہیں بذرِ بدعتی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا!

کیا خدا تعالیٰ سے تمہارا کوئی خصوصی رشتہ ہے یا اس کی تائید ہے کہ وہ تمہیں اور تمہاری

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

فان ابغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى امر الله۔ (پارہ ۱۲۶، الحجرات ۹)

”پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کے لئے لڑو یہاں تک کہ وہ

اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کی روشنی میں ذرا حالات کا جائزہ لیجیے!

۱۔ جنگ شروع ہوئی جس کی وجہ قصاص عثمان کا مطالبہ تھا۔

۲۔ جنگ ختم ہو گئی اور ختم بھی صلح پر ہوئی۔

سوال یہ ہے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے مطالبے سے دست بردار ہو گئے؟

اگر نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کیوں بند کی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت

کیوں ڈال دیا؟ قرآن مجید کی رو سے ان کا فرض تھا کہ اس وقت تک جنگ جاری رکھتے جب تک

کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خدا تعالیٰ کے حکم کی طرف (بہ قول شام) نہ لوٹ آتے اور تائب نہ ہو جاتے، لہذا

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جنگ بند کرنے اور صلح کر لینے سے یہ ثابت ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی نہ

تھے شیعہ کے نزدیک فعل امام تو نص قطعی ہوتا ہے، لہذا فعل ابوالائمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو امیر معاویہ

رضی اللہ عنہ کے باغی نہ ہونے پر نص قطعی ہے۔

پھر مولوی مقرر کا کہنا کہ ”جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے باغی کہہ دیا تو قیامت تک کوئی بھی

اسے غیر باغی ثابت نہیں کر سکتا“ مردود ہوا یا نہ؟

پھر اس صلح کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جس حسن سلوک کا اظہار ہوا

وہ ہے جو اس الزام کی نمایاں تردید ہے۔

لیصلح کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو صرف کوفہ اور حجاز رہ گیا تھا اور اس چھوٹی سی

سلطنت کی حفاظت کے لیے جو ہاں شام و یمن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی اس کی جاں

نظر رکھنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے جو کچھ ضروری تھا اسے دینا دے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک لے لینے کو

معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس قدر آزادی مرحوم سے حقوق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

کو سوئپ کر ثابت کر دیا کہ وہ باغی تو کہاں ہوئے بل کہ منصوص خلیفہ ہیں۔

جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو شیعہ اور مولوی مقرر کے نزدیک امام کا یہ فعل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر نص ہوا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والوں کو قرآن کا واسطہ دینا تو بے سود ہے کیوں کہ موجودہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں وہ اس قرآن کو کتاب الہی تسلیم نہیں کرتے، البتہ ان سے یہ کہنا ان کی خیر خواہی کی وجہ سے ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کا حیا کریں ان کے فعل سے منحرف ہو کر اور براءت کا اظہار کر کے کیامتہ دکھاؤ گے۔

قرآن مجید کی مذکورہ آیت کے پہلے حصہ سے ضمناً ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے۔
قرآن مجید کے الفاظ مبارک یہ ہیں:

و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما۔ (پارہ ۱، ۲۶، حجرات ۹)

”اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ!“ (کنز الایمان)

تو صفین میں جو دو گروہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ مومن فرماتا ہے، لہذا اگر بغض معاویہ کی وجہ سے

کوئی آدمی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے سے باز نہ آئے تو بھی ان کو مومن کہے بغیر چارہ نہیں۔

ہاں، آدمی قرآن کا منکر ہو تو اس سے کچھ بعید نہیں، جو چاہے کہتا پھرے۔ فقط۔ اللہ و رسولہ

اعلم بالصواب۔

محمد عبدالرشید رضوی غفرلہ

المرقوم: ۶ رزی تعد ۱۳۲۹ھ / ۵ نومبر ۲۰۰۸ء

خادم الطلہا جامعہ قطبیہ رضویہ

چک نمبر 233 قطب آباد شریف، تحصیل ضلع جنگ

صَافِيهِ لِمَا وَقَعَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

مصنفہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت

عید سائیں علامہ غلام رسول قاسمی مدظلہ، سرگودھا

تقریباً سعید

حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب ہزاروی

دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ، ہری پور، ہزارہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

از روئے قرآن و حدیث یہ بات ثابت ہے کہ جملہ صحابہ کرام بہ شمول ازواج مطہرات و
الزینت المبارکین کی ہیں۔ قرآن اہم میں ہے:

لَا يَسْعَىٰ مِنْكُمْ مِنَ الْفَقْرِ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتِلِ أَوْلَادِكَ اعْظَمَ هَرَجَةً

مِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ بَعْدِ وَ قَاتِلُوا وَ كَلَّا وَ هَذَا اللَّهُ الْعَسْفَتِيُّ۔ (سورۃ الحدید)

یعنی کہ سے قبل فرطاً جہاد کرنے والے اور بعد میں کرنے والے باہم مساوی نہیں ہیں کہ
جہاد جہاد کرنے والوں کا جہاد ہے، لیکن پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے تمام صحابہ
کرام میں سے ان کا جہاد ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اور کچھ دوسری آیات
میں صحابہ کرام کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ درجہ اور فضیلت کثرت
میں ہے۔ ان کی اہمیت کو قرآن مجید نے ظاہر کیا ہے۔ صحابہ کرام کی اہمیت کو قرآن مجید نے ظاہر کیا ہے۔

ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری نیکی برابر نہیں ہو سکتی۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الا تری ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم و سلم
و باریک فضلوا بالصحبة علی من عداہم سوی الانبیاء علیہم السلام
و ان اویسا قرینا و عمر مروانیا مع بلوغہما نہایة الدرجات و
وصولہما غایة الکمالات سوی الصحبة فلا جرم صار خطاء معاویة

خیرا من صوابہما بیو کة الصحبة (کتوبات امام ربانی بدختر دوم، مکتوب نمبر ۱۲۰)

محبت نبوی ایک ایسی نیکی ہے جو اگلے پچھلے تمام سیئات کے لیے کفارہ ہے۔ صحابہ کرام میں
جس طرح سیدنا حضرت صدیق اکبر، سیدنا حضرت عمر، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت علی
رضی اللہ عنہم داخل ہیں، یوں ہی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں۔ ان کے صحابی
رسول ہونے میں معمولی شک کی گنجائش بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص محض تاریخی رطب و یابس کی بنیاد پر
ان کو گنہگار ثابت کرے بھی تو ان کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کے لیے محبت نبوی کفارہ سیئات
ہے اور وہ مذکورہ آیت کی رو سے قطعی جنتی ہیں۔

حضرت علامہ شیخ الحدیث والتفسیر میر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب مدظلہ العالی سرگودھا
کی تالیفات میں سے ”صافیہ لما وقع بین علی و معاویہ“ (رضی اللہ عنہما) کا میں نے از اول تا
آخر مطالعہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بہت عمدہ تالیف ہے۔
آپ نے رسالہ کے اول میں بد نصیبوں کے بغض بھرے جملہ اعتراضات کے تسلی بخش اور مسکت
جوابات دیے ہیں اور آخر میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب خوب صورت
ترتیب سے تحریر فرمائے ہیں۔ یہ رسالہ مختصر ہے، مگر اس موضوع پر جامع ہے۔ میں نے موصوف کی
بعض دوسری تالیفات بھی پڑھی ہیں، ماشاء اللہ آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا مسلکِ حق کی
بہترین ترجمانی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود مسود کو حریز رہے! آمین یا رب
العالمین بجاہ النبی الامین! و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ واصحابہ
اجمعین۔

الراحم:

آج 25 مارچ 2009

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِیْنَ
 وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ
 اَمَّا بَعْدُ...

چند ماہ پہلے ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے ایک خط موصول ہوا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف سخت گستاخانہ طریقے سے بارہ سوال داغے گئے تھے۔ ان سوالات کے ساتھ یہ خط بھی موجود تھا جس میں علمائے حق کو اس بدتمیز خط کا جواب لکھنے پر مجبور کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ خط ہم لفظ بہ لفظ شائع کر رہے ہیں۔ اسے پڑھ لینے کے بعد آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہماری طرف سے جواب منظر پر آنے کی تمام تر ذمہ داری سائل پر عائد ہوتی ہے یا پھر سائل کو استعمال کرنے والی لابی پر عائد ہوتی ہے۔ خط یہ ہے:

بخدمت جناب پروفیسر ہارون الرشید تبسم صاحب و علمائے ربانی سرگودھا
 السلام علیکم! دُعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تادیر سلامت رکھے۔ آپ دین کی خدمت کرتے
 رہیں، مخلوق خدا آپ کے علم سے سیراب ہوتی رہے۔ ہمیں ایک ایسی جماعت سے مجادلہ کا معرکہ
 پیش آ گیا ہے جس نے ہمارے مسلک کو چیلنج کیا ہے کیا اگر تم سچے ہو تو ہمارے پیش کردہ سوالات
 کے تحریری جوابات پیش کریں، اگر جوابات پیش نہیں کر سکتے تو ہمارا موقف جو سراپا حق ہے، قبول
 کر لیں کہ ہمیں بات حق کے نمایاں نشان ہے۔

ہم نے مقامی علماء سے الگ الگ رابطہ کیا اور انہیں صورت حال سے باخبر کر کے راہ نمائی کی
 تاکہ ان کے ہر ایک نے تحریری جوابات دینے سے گریز کیا اور کچھ علمائے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ
 مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جواباً عرض کیا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ
 میں جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہاں تک کہ وہ
 جواب دے کہ ہاں ہے تو اس مسئلہ میں بھی ہمیں
 ہرگز ہار نہیں سکتے۔

کو قبول کر کے اس کی تائید کرتے ہیں جب کہ باطل کو رد کر کے اس کی پُر زور تردید کرتے ہیں۔ یا تو ہم لکیر کے فقیر بن کر اندھی تقلید کے قائل بن کر ہٹ دھرم ہو چکے ہیں یا باطل کا جواب دینے کی ہمارے پاس علمی استعداد نہ ہے یا پھر ہم ضد اور تعصب کا شکار ہو کر حق سے چشم پوشی کر رہے ہیں اور حق کو قبول کرنے والے جذبہ ایمان سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس صورت حال میں ہم ذناب فی ثیاب کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، جو ایمان سوز اور تباہ کن ہے۔

آپ سے خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر التجا ہے کہ ہماری راہ نمائی فرمادیں! ہمیں ان سوالات کے جوابات سے آگاہ فرمادیں تاکہ ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو۔ ہمیں تذبذب کی کیفیت سے نکال کر یقین کی منزل پر لائیے! اگر آپ نے بھی خاموشی اختیار کی، حق کو چھپایا اور ہماری راہ نمائی نہ فرمائی تو روز قیامت آپ جواب دہ ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے۔ علامہ ربانی کی یہ شان نہیں کہ وہ حق کو چھپائیں۔ حق کو چھپانا تو سب سے بڑا ظلم و تعدی ہے۔

حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ جب ہم اہل حق ہیں، تو پھر خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ کیا باطل کی تردید ضروری نہیں؟ جب کہ دوسرا فریق دعوے سے کہتا ہے کہ آپ سوالات کے جوابات پیش کر کے حق کو سامنے لائیں، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن و سنت میں ہر مسئلہ کا حل موجود ہے۔ امید ہے آپ مایوس نہیں فرمائیں گے اور اہل حق ہونے کا ثبوت پیش کریں گے اور ہماری راہ نمائی فرما کر مشکور فرمائیں گے۔

طالب حق

غلام رسول نقشبندی

خطیب مرکزی جامع مسجد ریلوے روڈ، میاں والی

واضح رہے کہ خط کے ٹائٹل پر جن صاحب کو مخاطب کیا گیا ہے، ہم ان سے متعارف نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے انھیں سرگودھا کے علما میں شمار ہونے سنا ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ ان سوالات کے جواب ہم نے سائل کو ذاتی طور پر اس کے ایڈریس پر پوسٹ کر دیے تھے، مگر افسوس کہ اس کے باوجود سائل نے علما کی طرف وہی گھسے پٹے سوالات بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سائل کی اس حرکت سے ہم معاملے کی تک پہنچ چکے ہیں، مگر فرض کفایہ کی ادائیگی کی غرض سے سائل کے سوالوں کے جواب شائع کرنے کی جرات کر رہے ہیں۔ جو جوابات ہم نے سائل کو ذاتی طور پر بھیجے تھے، یہ مضمون ان کی نسبت زیادہ مختصر ہے۔

سوالوں کے جواب

سوال 1:- فرمان خدا ہے: ایک مومن کو عہد اُقتل کرنے والا دانگی جہنمی ہے۔ اس پر اللہ کا غضب و لعنت ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ تو جس نے خلیفہ راشد سے بغاوت کر کے بے شمار صحابہ کا قتل عام کرایا وہ کس قدر اللہ کے غضب و لعنت کا مستحق ہوگا۔ وہ آپ کے علم و اعتقاد میں جنتی ہے جہنمی؟

جواب:- اولاً: آپ نے جو فرمان خدا نقل کیا ہے اس کے بارے میں جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اُس شخص کے بارے میں ہے جو توبہ نہ کرے۔ (بیضاوی جلد ۱ صفحہ ۲۳۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيَمُنُنَّ أَبَدًا

یعنی جو شخص توبہ کرے میں ضرور بخشے والا ہوں۔ (طہ: ۸۲)

اور حدیث شریف میں ہے کہ سو آدمیوں کے قاتل نے جب سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ (بخاری، مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۵۹، الترمذی جلد ۱ صفحہ ۱۲۵)

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اُس شخص کے لیے ہے جس نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا۔ (ابن جریر جلد ۳ پارہ ۵ صفحہ ۲۶۶، بیضاوی جلد ۱ صفحہ ۲۳۱)

ثانیاً: اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھی نیت سے اپنی لاش جلانے کی وصیت کرنے والا بخشا گیا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۹۵۹)

اور نیک نیت سے جہاد کرنے اور علم پڑھانے والا جہنم میں گیا۔ (مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۳۰)

مولانا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کی نیت درست تھی۔ حضرت ابو درداء اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہما نے سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان صلح کرانے کے لیے زبردست کوشش کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری جنگ صرف عثمان کے لیے ہے۔ اگر عثمان کے قتل کے لیے ہے تو میں اسے نہیں چاہتا۔ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم نے عثمان کے قتل کے لیے کوشش کی ہے۔ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم نے عثمان کے قتل کے لیے کوشش کی ہے۔ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم نے عثمان کے قتل کے لیے کوشش کی ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر و ثواب فرمائے۔ آمین

خونِ عثمان کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ (حاصل "سج البلاغہ" صفحہ ۴۲۳)

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اتنی قتل و غارت کے بعد بھی انھیں مسلمان قرار دیا ہے۔

حدیثِ فِثْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳۰)

جسے حضور ﷺ مسلمان قرار دیں، ہمارے علم اور اعتقاد میں وہ جنتی ہے اور جو شخص اسے مغضوب، ملعون اور جہنمی کہے وہ خود مغضوب، ملعون اور جہنمی ہے اور حبیب کبریٰ ﷺ سے ٹکر لے رہا ہے۔

ثالثاً: حدیثِ پاک میں ہے کہ حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کی مدد کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں میری ملاقات ابو بکرہ سے ہوئی، انھوں نے پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے فرمایا: اے احنف! واپس چلا جا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ۔

یعنی جب دو مسلمان تلواریں لے کر آمنے سامنے آجائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی

ہیں۔ (مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۸۹، بخاری جلد ۱ صفحہ ۹)

اس حدیث کو اگر آپ کی عینک سے پڑھا جائے تو دونوں طرف کے لشکر معاذ اللہ جہنم میں جا رہے ہیں، خواہ حق پر کوئی بھی ہو۔ اور اگر یہاں تاویل ضروری ہے تو یہی تاویل حدیثِ عمار میں بھی ضروری ہے۔

سوال 2:- قرآن و سنت کی رو سے صحابی و باغی کی تعریف و جزا کیا ہے؟ کیا صحابی اور باغی کو

ایک ہی زمرہ میں شمار کیا جاسکتا ہے یا نہ؟

جواب:- جس مسلمان نے نبی کریم ﷺ کی زیارت کی اور مرتد نہیں ہوا وہ صحابی ہے۔

قرآن شریف میں اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد ہے کہ

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا

عَلَى الْأُخْرَىٰ فَالْقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔

یعنی اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرو، پھر اگر ان میں

سے ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو جو بغاوت کرتا ہے اس کے خلاف اسے دیکھ کر جنگ

جاری رکھو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ (المائدہ ۶۴)

اس آیت میں مومنین کے دو گروپوں کا ذکر ہے جو آپس میں لڑ پڑیں۔ حکم یہ ہے کہ مومنوں کا ایک گروہ اگر مومنوں کے دوسرے گروہ پر بغاوت کرے تو مظلوم کا ساتھ دو۔ یہاں بغاوت کرنے والے کو بھی مومن کہا گیا ہے اور جس کے خلاف بغاوت کی گئی ہو اسے بھی مومن کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی ہونے کے باوجود مومن ہے۔

اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے:

وَيَغُونَنَّ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ-

یعنی ظلم کرنے والے لوگ حق کے بغیر بغاوت کرتے ہیں۔ (شوری: ۴۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک بغاوت حق پر ہوتی ہے اور دوسری بغاوت حق کے بغیر ہوتی ہے۔ یہی بات اہل لغت نے بھی لکھی ہے۔ امام زاغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہی آیت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ

فَخَصَّ الْعُقُوبَةَ بِبَغْيِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ-

یعنی اللہ نکہالی نے حق کے بغیر بغاوت کرنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔

(المفردات صفحہ ۵۳)

اسی آیت کے لفظ بغاوت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

الْبَغْيُ قَدْ يَكُونُ مَحْمُودًا وَمَذْمُومًا-

یعنی بغاوت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ (المفردات صفحہ ۵۳)

”المنجد“ میں بغاوت کے دو معنی لکھے ہیں:

(۱) تلاش کرنا یا مطالبہ کرنا

(۲) ظلم اور نافرمانی کرنا۔ (المنجد صفحہ ۹۴)

قرآن اور لغت کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ باغی کا لفظ وسیع ہے اور ہر باغی کافر اور جہنمی

نہیں ہوتا بلکہ اس لفظ کا اطلاق کلمین مسارقتین پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ

لَا تَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَلِمَاتِهِمْ حَسَنَةٌ لِّكُنْتُمْ مَجْتَهِدُونَ فَلَا تَم

یوں ہونا چاہیے کہ اس لفظ کا اطلاق کلمین مسارقتین پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ

لَا تَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَلِمَاتِهِمْ حَسَنَةٌ لِّكُنْتُمْ مَجْتَهِدُونَ فَلَا تَم

اللہ کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ
وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ (طہ: ۱۲۱)

اس آیت کا ترجمہ علمائے اس طرح فرمایا ہے کہ آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ (ترجمہ کنز الایمان از اعلیٰ حضرت)

حالاں کہ قرآن کے اصل الفاظ عَصَىٰ اور غَوَىٰ ہیں۔ عَصَىٰ کا لفظی معنی ہے: نافرمان ہوا، اور غَوَىٰ کا لفظی معنی ہے گم راہ ہوا۔ کیا آپ یہ جرات کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے حضرت امیر معاویہ کو بغاوت کے لفظ کی وجہ سے باغی کہا ہے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی۔ معاذ اللہ۔ عاصی اور غاوی کہہ دیں؟

اگر یہاں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت تاویل پر مجبور کر رہی ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت اور ان کے فضائل تاویل پر مجبور کر رہے ہیں۔
ثالثاً: جسے ہم صحابی کہہ رہے ہیں اور آپ باغی و مرتد ثابت کر رہے ہیں اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے جنگ لڑ چکنے کے بعد مسلمان قرار دیا ہے۔ (بخاری ۱/۵۳۰)

لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق وہ صحابی ہی تھے، باغی و مرتد نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ معاویہ کو کچھ نہ کہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ (بخاری ۱/۵۳۱)
لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، باغی اور مرتد نہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۴۱۰)

سب سے پہلے سمندر پار جہاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور اس حدیث میں ان کی واضح اور زبردست منقبت موجود ہے۔ فی ہذا الحدیث منقبت لمعاویۃ۔

(ما شیخ بخاری جلد ۱ صفحہ ۴۱۰)

لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں نہ کہ مرتد۔ اور جو شخص اتنی تصریحات کے باوجود امیر معاویہ پر زبان دھاری کرتا ہے، وہ خود باغی ہے اور مرتد ہو کر مرے گا۔ مَنْ عَادَىٰ لِيُؤْتِي عَاوِيَةَ بِالْحَرْبِ۔ "جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھتا ہے اس کے خلاف اللہ کا اعلان ہوگا۔"

سوال 3:- احادیث متواترہ کا ماننا مثل قرآن ضروری ہے۔ اسی حدیث کے خلاف اعتقاد عمل ہدایت سے ہمراہ گم راہی؟

جواب:- حدیث عثمان بن یاسر رضی اللہ عنہ متواتر نہیں۔ اور اگر اسے کسی نے متواتر کہہ بھی دیا تو بالتحقیق اس حدیث کا تواتر ثابت کرنا ناممکن ہے۔ اس حدیث کے تواتر پر آپ کا وثوق آپ کی خود غرضی اور عدم تحقیق کا بہترین مظہر ہے۔

اور اگر یہ حدیث متواتر ہو بھی تو پھر کیا ہوا؟ کس بد بخت نے اس حدیث کا انکار کیا ہے؟ انکار تو ہم صرف اس مفہوم کا کر رہے ہیں جو آپ نے پوری امت کے خلاف محض اپنی ذاتی رائے سے کشید کر لیا ہے۔ بتائیے! اس حدیث سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جہنمی ہونا کہاں سے ثابت ہوا؟

بعض اوقات بغاوت کرنے والا ظالم ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل باغی ظالم تھے۔ کبھی حکم ران اور بغاوت کرنے والے دونوں مجتہد ہوتے ہیں اور محض نیک نیتی کی بنا پر

جنگ ہو جاتی ہے جیسا کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما میں جنگ ہوئی اور مولا علی و سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ دونوں بزرگ ہستیاں اپنی اپنی تحقیق کے مطابق حق پر تھیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فوج کو باغی گروہ قرار دیا ہے فتنۃ باغیہ (مسلم جلد ۲ صفحہ

۳۹۵) اسی فوج کو مسلمان گروہ بھی قرار دیا ہے فتین من المسلمین (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳) اور مولا علی کریم اللہ وجہہ الکریم فرما رہے ہیں کہ یہ محض برادرانہ اختلاف تھا۔ (ماصل "نہج البلاغہ" صفحہ ۳۳۳)

سوال 4:- اجتہاد کی تعریف۔ اجتہاد کب روا ہے؟ اجتہاد بالقلم یا بالسیف ہے؟ وہ کیا شرائط ہیں جن کا مجتہد میں پایا جانا ضروری ہے، جس سے وہ درجہ اجتہاد کو پہنچتا ہے اور مجتہد کو اپنی

صریح خطا کا علم و یقین ہونے پر رجوع کرنا ضروری ہے یا نہ؟

جواب:- جس مسئلے کا حل قرآن و سنت اور اجماع میں نہ ملے قیاس کے ذریعے اس کا حل نکالنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ واضح حکم موجود نہ ہونے کی صورت میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔

مجتہد کے لیے قرآن و سنت کا عالم ہونا اور اجماعی مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مجتہد کو اپنی خطا کا علم ہو جائے تو اس پر رجوع کرنا لازم ہے، لیکن اگر اسے اپنی خطا کا علم نہ

ہوے کہ اور وہ خود کو یقین پر ہی سمجھتا ہو تو اس کی خطا معاف ہے بلکہ اسے اجتہادی خطا پر بھی

معتد نہیں کیا جاتا۔ (مسلم جلد ۱ صفحہ ۳۹۵)

اس مسئلے کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ "مجتہد کو اپنی خطا کا علم ہونا ضروری ہے، اگر اسے اپنی خطا کا علم نہ ہو تو اس کی خطا معاف ہے"۔

اس سے رجوع کر لینا ایک الگ بحث ہے۔

ثالثاً: اجتہاد کی شرائط کچھ بھی ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کو مجتہد (فقیہ) قرار دیا ہے۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳۱)

لہذا یہ سوال آپ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھیے کہ مجتہد کی شرائط کیا ہیں اور آپ نے معاویہ کو فقیہ کیوں قرار دیا ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا، لہذا کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ قال العلماء: الخ۔

(نود علی مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۹۶)

اہل سنت کی درسی کتاب ”شرح عقائد نسفی“ میں ہے کہ

فلہ محامل و تاویلات۔ (شرح عقائد نسفی صفحہ ۱۶۳)

علامہ ابن حجر کی لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا۔ (تطہیر البیان صفحہ ۳۵)
ملا علی قاری لکھتے ہیں:

کان عن خطاء فی اجتہادہم۔ (شرح نقدا کبر صفحہ ۶۵)

علامہ پرہاروی لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا۔ (نبراس صفحہ ۳۰۷)
امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ

کل مجتہد مصیب او المصیب واحد و المنخطی معنور بل ماجور۔

(الایقیت والجوہر صفحہ ۲۲۵)

فرمائیے! جس مسئلے کے اجتہادی ہونے کا اشارہ حدیث میں موجود ہے۔ دعوایہما

واحدہ۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ صفحہ ۳۶۵)

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما بھی اسے اجتہادی سمجھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اختلاف صرف

خون عثمان میں تھا۔ (نہج البلاغہ صفحہ ۳۳۳)

اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ دونوں طرف کے مقتول جنتی ہیں۔ (طہرائی کبیر جلد ۸ صفحہ ۲۷۶)

اس کے علاوہ یہ مسئلہ پوری امت کو اجتہادی نظر آ رہا ہے آپ کی فسادی نگاہ کو اس کا

اجتہادی ہونا کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ پہلے آپ محبوب کریم ﷺ کو لکھیں اور پوری امت کے

علماء کے مقابلے پر اپنی اوقات، علم اور قوت فیصلہ کے بارے میں اس میں آگاہ فرمائیں!

سوال 5:- نئی پاک ﷺ کو بالواسطہ یا بلاواسطہ گالیاں دینے والا ﷺ سے کونسا ہے؟

بغض و عداوت رکھنے والا، نافرمانی کرنے والا مومن ہے یا منافق و مرتد؟

جواب: ۱- علمائے تصریح فرماتی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو دی جانے والی وہ گالی جو نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گی اس سے مراد نبی گالی ہے۔ (مرقاۃ جلد ۱ صفحہ ۲۳۸)

۲- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا، تنقیص و توہین کرنے والا، تصریح نافرمانی کرنے والا کافر ہے، اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو جائے گا۔

۳- نبی کو گالی دینے اور صحابی کو گالی دینے میں یہ فرق ہے کہ نبی کو گالی دینا کفر و ارتداد ہے اور

اس کی سزا قتل ہے۔ جب کہ صحابی کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اس کی سزا کوڑے مارنا

ہے۔ (الفتا جلد ۲ صفحہ ۱۹۶)

یہ ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک عام آدمی صحابی کو گالی دے تو اسے کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے اور ایک صحابی دوسرے صحابی کو گالی دے تو یہ صورت حال بالکل مختلف ہے۔ دونوں طرف صحابی ہیں اور چوٹ برابر کی ہے، اگرچہ درجات کا فرق سمی۔ یہاں ہمارے لیے منہ بند رکھنا لازم ہے۔

۴- مگر یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو

کبھی گالی نہیں دی۔ عربی زبان میں گالی کو بھی ”سَبَّ“ کہتے ہیں اور ناراضگی یا ڈانٹ

ڈپٹ کرنے کو بھی سَبَّ کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ دو آدمیوں نے نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سَبَّ کیا۔ فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۳۶)

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! اگر میں کسی مسلمان کو

سَبَّ کروں یا اس پر لعنت بھیجوں تو اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دینا اور رحمت میں تبدیل کر

دینا۔ (مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۳۳)

کیا کوئی مسلمان یہ باور کر سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی ہوگی؟ معلوم ہو گیا

کہ صحابی اسلام میں سَبَّ و لعن سے مراد کسی سے ناراضگی کا اظہار بھی ہوتی ہے۔ خصوصاً حضرت مولا

علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حدیث سن لیجیے!

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حدیث سن لیجیے! حضرت علی رضی اللہ عنہ کو

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سَبَّ کیا تھا اور انہیں سَبَّ کرنے سے روکا گیا ہے؟ اس نے کہا: وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو

تراب“ کہتا ہے۔ حضرت سہل بنس پڑے اور فرمایا: اللہ کی قسم اس نام سے انھیں خود حضور ﷺ نے پکارا ہے اور خود حضرت علی کو یہ نام سب سے زیادہ پیارا تھا۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۲۵)

واضح رہے کہ اس حدیث شریف میں حضرت معاویہ کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں مروان بن حکم کی بات ہو رہی ہے جو مدینہ کا گورنر تھا۔

اس قسم کی باتیں جب متعصب اور تقیہ باز شیعوں کے ہاتھ لگیں تو انھوں نے ایسی ہی باتوں کو یا تلخ کلامی اور برادرانہ نوک جھوک کو گالیاں پٹا ڈالا اور تاریخ کی کتابوں میں لکھ ڈالا۔ سب کا ترجمہ گالی پڑھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نخواستہ ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہوں گی، حالاں کہ کوئی مائی کالال تاریخ کی کتابوں میں ایسی گندی گالیاں نہیں دکھا سکتا۔

سوال 6: - خلیفہ راشد کی اطاعت فرض ہے۔ فرض کا منکر و مخالف مومن ہے یا کافر؟

جواب: - خلیفہ راشد کی خلافت متحقق ہو جانے اور طے پا جانے کے بعد اس کی اطاعت فرض ہے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چوں کہ عدم اطاعت کے لیے خون عثمان کے سبب تاویل موجود تھی اور اس وقت تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت مستحکم بھی نہیں ہوئی تھی کہ نافرمانی فرض کا ترک ٹھہرتی۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں جھٹ سے بدتمیزی کرنے کی بجائے ادب اور احتیاط کا دامن تھا من ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ

لَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى۔

یعنی صحابہ کے اختلاف کے باوجود اگر کوئی شخص کسی ایک کی بھی پیروی کر لے گا تو وہ اللہ

کے نزدیک ہدایت پر سمجھا جائے گا۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۵۵۲)

روانفص کی کتاب ”احتجاج طبری“ میں ہے کہ

اِخْتِلَافُ اصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ۔

یعنی میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ (احتجاج طبری جلد ۲ صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷)

حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اختلاف کو رحمت قرار دیا ہے اور آپ اس اختلاف پر انھیں

جہنم واصل کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما ایک دسترخوان پر

موجود ہوں اور آپ کی بدتمیزیاں آپ کے گلے کا پھندا بن چکی ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ عَاثَرْنَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ اِخْوَانًا عَلَيَّ سُرُورًا لَمُنَّوْا۔

یعنی ہم ان کے دلوں سے ناراضگیاں محسوس کر رہیں گے، وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے اور ایک

دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ (حجر: ۴۷)

مولا علیؑ فرماتے ہیں کہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ میں، طلحہ، زبیر اور عثمان انھی لوگوں میں شامل ہوں گے جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔

(یعنی جلد ۸ صفحہ ۱۷۳، البدایہ والنہایہ جلد ۷ صفحہ ۲۳۹، بے شمار تقاسیر)

سوال 7:- ایک صاحب ایمان تمام ارکان و فرائض اسلام و جمیع ضروریات دین و ایمان پر پختہ یقین و ایقان رکھتا ہے۔ حضور خاتم النبیین ﷺ کے اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیائے اُمت کا ادب و عشق رکھنے والا پیرو کار ہے۔ امیر عامہ معاویہ کو باغی جاننے سے کیا اس کا ایمان کامل نہیں؟ اگر آپ کے اعتقاد و ایمان و علم میں تکمیل ایمان کا دار و مدار معاویہ کے ماننے پر ہی ہے تو قرآن و سنت میں اس کے جواز میں کیا دلائل ہیں؟

جواب:- یہی بات ایک قادیانی، خارجی اور رافضی بھی کر سکتا ہے۔ یہ لوگ بھی ان سب چیزوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اپنی مرضی کی صرف ایک ڈنڈی مارتے ہیں اور یہی حال آپ کا بھی ہے۔

ثانیاً: آپ نے سوال میں اپنے آپ کو صحابہ کرام، اولیائے اُمت کا ادب و عشق رکھنے والا پیرو کار لکھا ہے۔ لیکن امیر معاویہؓ کو گالیاں دینے کے بعد آپ کی یہ بات جھوٹی ثابت ہو گئی۔ نیز آپ نے سوال نمبر گیارہ میں لکھا ہے کہ ضدی و متعصب ملاں و صوفی معاویہ کی حمایت پر مصر ہے۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد آپ خود کو اولیائے اُمت کا ادب و عشق رکھنے والا پیرو کار کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پرانے اولیا کو مانتے ہیں تو ان اولیاء کا عقیدہ بھی وہی تھا جو ہمارا عقیدہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت عمرو بن شریک، حضرت ہدائی، حضرت عبد اللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل اور حضرت داتا گنج بخشؒ کے روحانی مشاہدات اور عقائد ہم عن قرب بیان کریں گے۔ یہاں ڈراویلوں کے سردار حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی ہر بات پر شکر ادا کریں گے۔

آنحضرتؐ کے ان درالیم معاویہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیرؓ کا معاملہ: تو وہ بھی حق کے لئے لڑے اور اللہ کے فضل سے کھڑے رہے۔ اور قاتل حضرت علیؑ کے لشکر کے سربراہ تھے۔ ان کے خلاف لڑنے کے لئے ان کے ہاں ایک بڑا بڑا لشکر تھا۔ وہ

سب سے بڑا حاکم اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب پر نظر ڈالیں اور دلوں کو گناہوں کی چیزوں سے اور اپنی ظاہری حالتوں کو تباہی انگیز کاموں سے پاک اور صاف رکھیں۔ (غنیۃ الطالبین صفحہ ۱۸۶)

اولیائے امت بل کہ تمام اولیاء کے سردار جو کچھ فرما رہے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ان اولیاء کو چھوڑ کر خدا جانے آپ کون سے اولیاء کے پیروکار ہیں۔

ثالثاً: حبیب کریم ﷺ نے فرمایا کہ
دَعُوا لِي أَصْحَابِي وَأَصْهَارِي۔

”میری خاطر میرے صحابہ اور میرے سرال کو کچھ نہ کہا کرو!“

اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو صحابی نظر نہیں آئے تو کم از کم محبوب کریم ﷺ کے سرالی رشتے کا ہی حیا کر لیا ہوتا۔

رابعاً: ایمان کا دار و مدار قرآن و سنت کو ماننے، صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کا ادب کرنے اور دیگر بہت سی باتوں پر ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی دار و مدار کا ایک حصہ ہیں جس طرح کسی بھی دوسرے صحابی کو گالی دینا یا جہنمی کہنا خود جہنمیوں والی حرکت ہے اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی گالی دینا یا جہنمی کہنا دوزخیوں والی حرکت ہے۔

ایک صحابی رسول جو اللہ کو بالکل اسی طرح مانتا ہے جس طرح مولا علی مانتے ہیں، مولا علی ہی کی طرح نبی کریم ﷺ کو مانتا ہے، مولا علی ہی کی طرح ایمان رکھتا ہے اور اسی کا دعویٰ کرتا ہے۔ مولا علی خود فرمائیں کہ میں اس سے اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کی تصدیق میں زیادہ نہیں ہوں اور نہ ہی وہ مجھ سے زیادہ ہے، ہمارا معاملہ بالکل ایک جیسا ہے، اختلاف صرف خون عثمان میں ہے اور ہم اس خون سے بری ہیں۔ (بخاری ج ۱ ص ۴۲۳)

تقریباً یہی بات بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلَ فِتْنَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْعَدَةُ عَظِيمَةٌ
وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ۔

یعنی قیامت اُس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم گروہوں کے درمیان زبردست جنگ نہ ہو، اُن دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ (بخاری، مسلم جلد ۲ ص ۳۹، مشکوٰۃ ج ۱ ص ۴۱۵)

اس حدیث کی تشریح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو

گروہوں سے مراد حضرت علی اور حضرت معاویہ کے ساتھی ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ

إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا۔

یعنی ہم پر بغاوت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں۔

(بیہقی جلد ۸ صفحہ ۱۷۲، ۱۷۳، الملعمات جلد ۲ صفحہ ۳۱۷)

یہی حدیث شیعہ کی کتاب ”قرب الاسناد“ میں بھی موجود ہے۔ (قرب الاسناد جلد ۱ صفحہ ۲۵) تو اب آپ بتائیے کہ ان صاف اور سیدھی باتوں کے باوجود امیر معاویہ کو گالیاں دینے کے لیے آپ کے پاس قرآن و سنت میں کیا دلائل موجود ہیں؟ جس شخص کو مولا علی ایمان اور اسلام میں مکمل طور پر اپنے جیسا قرار دیں، اُسے اپنا بھائی کہیں، نبی کریم ﷺ بھی اُن کی برابری کی تصدیق فرمائیں اور اُسے مسلمانوں کے گروہ میں سے قرار دیں، اُسے جہنمی کہہ کر خود جہنم میں جانے کا شوق آپ پر کیوں سوار ہے؟

نبی کریم ﷺ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ معاویہ ہمارا بھائی ہے۔ اب بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم ﷺ کے درمیان کون سا رشتہ ثابت ہوا؟ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہم شیرہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ دینی رشتہ کے علاوہ برادر نسبتی ہونا بھی شک سے بالاتر ہے۔ اب بتائیے کہ امیر معاویہ کو گالی دینا نبی کریم ﷺ کو گالی دینے کے مترادف ہے کہ نہیں؟

اب ذرا اپنے سوال کا جواب حلیل القدر تابعین کی زبانی لفظ بہ لفظ سن لیجیے! امام زہری رضی اللہ عنہ کو اہل بیت سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ بعض لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا شک کر دیا ہے۔ یہی امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے بارے میں سوال کیا۔ انھوں نے فرمایا: اے زہری! سن لے! جو شخص ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کی صحبت میں رہا، اور ان سے گواہی دی کہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں اور امیر معاویہ سے رحم دلی کا رویہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا مزدوار ہے کہ اس سے جناب خدا مانگے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۶)

اب بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مثال صحابہ کی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ پر زبان درازی کر دی، اس کی جھجک

اور اس کی مثال صحابہ کی ہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۶)

ایک اللہ کے ولی نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی۔ آپ ﷺ کے پاس ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور معاویہ موجود تھے۔ راشد الکندی نامی ایک شخص آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ شخص ہم میں نقص نکالتا ہے۔ کنڈی نے کہا: یا رسول اللہ! میں ان سب میں عیب نہیں نکالتا، بل کہ صرف اس ایک معاویہ میں عیب نکالتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تیرا برا ہو! کیا یہ میرا صحابی نہیں ہے؟ آپ نے یہ بات تین بار فرمائی۔ پھر آپ ﷺ نے ایک نیزہ پکڑا اور معاویہ کو دے دیا اور فرمایا: یہ اس کے سینے میں مارو! انھوں نے اسے نیزہ مار دیا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ راشد کنڈی کو رات کے وقت سچ سچ کسی نے مار دیا ہے۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۷)

اب آپ خود سوچ لیجیے کہ ایمان کی تکمیل کا دار و مدار امیر معاویہ پر ہے یا نہیں۔

سوال 8: - إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي أَوْ قَاتَلَهُمْ أَوْ آعَانَ عَلَيْهِمْ أَوْ سَبَّهُمْ۔

”بے شک اللہ نے حرام کر دیا جنت کو اس شخص پر جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا یا

ان سے جنگ کی یا ان سے جنگ کرنے والے کی اعانت و مدد کی یا ان کو گالی دی۔“

یہ سب کام معاویہ نے کیے۔ اس حدیث کی رو سے معاویہ کے جہنمی ہونے میں قطعاً شک نہ

رہا، لیکن حواری ملاں اپنے مفروضوں کے بل بوتے پر معاویہ کو گھسیٹ گھسیٹ کر جنت لے جانے کی کوشش میں کامیاب ہوں گے یا خود بھی اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے؟

جواب: - اولاً: آپ نے اس حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔

ثانیاً: اہل بیت کی تین اقسام ہیں:

سب سے بڑی اور حقیقی قسم اصل اہل بیت ہے وہ ازواج مطہرات اور چار شہزادیاں ہیں۔

ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا سورۃ احزاب میں نص سے ثابت ہے۔

دوسری قسم داخل اہل بیت ہے جن میں مولا علی اور حسین کریمین رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔

تیسری قسم لاحق اہل بیت ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور اُمت کے منتخب لوگ۔

(سچ شامل اردو جلد ۱۳)

اب آپ بتائیے جب مولا علی اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی جنگ ہوئی تو دونوں

طرف اہل بیت تھے کہ نہیں؟ اور سیدہ صدیقہ علیؑ کی اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ اہل بیت ہونے

کے ساتھ ساتھ وہ مولا علی کی ماں تھیں کہ نہیں؟ اور قرآن کے مطابق ماں کو آف کہنا بھی منع ہے کہ نہیں؟ اب آپ کا مولا علی پر کیا فتویٰ ہوگا؟

ہمارے نزدیک اُس جنگ میں بھی اجتہادی اختلاف ہوا تھا اور اس جنگ میں بھی۔ تحقیق کے لحاظ سے مولا علی کا موقف درست تھا، مگر فریق ثانی ان سے بڑھ کر اہل بیت تھا۔ ان کی شان میں بدتمیزی کرنا بہ درجہ اولیٰ منع ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے درمیان ناراضگی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے پیغمبر بھائی سے ناراض ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈاڑھی مبارک سے اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا۔ (حاصل طہ: ۹۳)

لیکن چوں کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، لہذا ہمیں ادب کی وجہ سے خاموش رہنا چاہیے۔ مولا علی اور سیدہ صدیقہ میں ناراضگی ہوئی۔ (عام کتب تاریخ)

مولا علی اور سیدۃ النساء میں جھگڑا ہوا اور سیدۃ النساء زہرا رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلی گئیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَحْضَبَهَا أَحْضَبَنِي۔

جس نے ظالم کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۱۲)

اگر آپ میں معمولی بھی خدا خونی اور احتیاط کا مادہ موجود ہے تو اس خطرناک صورت حال میں خاموشی کو ہی ترجیح دیں گے اور اگر قسمت پھٹ چکی ہے اور بدبختی غالب آگئی ہے تو بھاری بجلی کے خطرناک تاروں میں اگھست دینی کرتے رہیے۔ اہل سنت ایسے معاملات میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا کرتے ہیں۔

جنا: حدیث شریف میں ہے کہ جس نے میرے اہل بیت سے جنگ کی اس کے ساتھ میری جنگ ہے اور جس نے ان سے صلح کی اس سے میری صلح ہے۔ آپ کو حضرت امیر معاویہ کا ملامت سے جنگ لڑنا تاریخ میں نظر آ گیا ہے تو فرمائیے کہ اس جنگ کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا لڑکیوں کی کیا ہے؟

واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے میرے اہل بیت سے عداوت کی اس کے ساتھ میری عداوت ہے اور جس نے ان سے صلح کی اس سے میری صلح ہے۔ آپ کو حضرت امیر معاویہ کا ملامت سے جنگ لڑنا تاریخ میں نظر آ گیا ہے تو فرمائیے کہ اس جنگ کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا لڑکیوں کی کیا ہے؟

کو پروان چڑھا کر اتحادِ ملت کو تباہ کرنے والا تحریفِ دین اور ملوکیت کی بنا قائم کرنے والا قاتلِ آل و اصحابِ باغی کا کردار یزید کے کرتوت سے بڑھ کر بدتر ایمان سوز اور دین کش ہے۔ یہ ایں ہمہ ضدی و متعصب ملاں و صوفی یزیدِ اول (معاویہ) کی حمایت پر مصر ہے۔ کیا یزیدِ اول (معاویہ) اور یزید ثانی کے کردار و کرتوت میں مماثلت نہیں ہے؟

جواب:- اولاً: آپ کے یہ قول جب ملتِ اسلام کے تمام اہل حق کا یزید کے لعنتی و جہنمی ہونے پر اجماع ہے تو پھر آپ ہی بتائیے کہ وہی اہل حق امیر معاویہ کے جہنمی ہونے پر متفق کیوں نہیں ہوئے؟ جب کہ آپ ہی کے یہ قول امیر معاویہ یزیدیت کا بانی اور یزید کے کرتوت سے بڑھ کر بدتر ایمان سوز اور دین کش ہے۔ اس کے لیے آپ کو کھینچا تانی اور محنت کیوں کرنا پڑی ہے۔ آپ کم از کم سیدنا امام حسین ؑ کو تو اہل حق مانتے ہی ہوں گے۔ ہمیں بتائیے کہ انہوں نے چھوٹے یزید کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی اور بڑے یزید کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ یہ سوال حضرت داتا گنج بخش ؒ کی طرف سے آپ پر وارد کیا جا رہا ہے۔ (کشف المحجوب صفحہ ۷۷)۔

آپ اپنے سوال نمبر 7 میں اولیاءِ امت کا ادب و عشق رکھنے اور پیروکار ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ لہذا حضرت داتا گنج بخش ؒ کی پیروی کرتے ہوئے امیر معاویہ کو اہل حق مان لیجیے ورنہ اولیاء اللہ کی پیروی کا فریب دینا چھوڑ دیجیے!

ثانیاً: آپ نے حضرت امیر معاویہ ؓ کو یزیدِ اول، بدتر ایمان سوز اور دین کش کہا ہے۔ ہم یہ معاملہ اللہ ذوالجلال کے سپرد کرتے ہیں جو بڑی غیرت والا قہار ہے۔ فَسَتَعْلَمُ أُمَّةً مِّنْ قَلْبٍ تَنْقَلِبُ۔

ہم زیادہ سے زیادہ حسیبِ کریم ؐ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہی عرض کر سکتے ہیں کہ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَيْرِكُمْ مَّحَابِبِ كَوَالِيَا دِينَ وَالْوَالِدَاتِ حَارَّةٍ شَرِّهَا لِلَّهِ لَعْنَةُ۔

(ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۲۵)

ہاں امیر معاویہ اور یزید کے کردار میں آپ کی سرورہ مماثلت نہیں ہے۔ چہ نسبت خاکِ راہِ نبوی ؐ کے ساتھ ان کے کردار میں امیر معاویہ سے بہتر نہیں۔ بل کہ ہم میں مکمل مماثلت

نہیں ہے۔ (معاویہ کی تائید کے لیے) (۲۲۵)

یہاں تک کہ ان کے کردار میں امیر معاویہ سے بہتر نہیں۔ بل کہ ہم میں مکمل مماثلت

دیکھیے۔ آپ نے مولا علی کو کیا کہہ دیا ہے؟ معاذ اللہ!

سوال 12:- و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكموا الحق و انتم تعلمون۔

”اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ! اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو۔“

تو کیا ایک باغی دین و ملت کو صحابہ میں ملانا اس آیت کا انکار اور صحابہ کی توہین نہیں؟ اور کیا قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر نہیں؟

جواب:- امیر معاویہ باغی دین و ملت نہیں ہیں، بل کہ صحابی ہیں۔ ہم حدیث شریف لکھ چکے

ہیں کہ صحابہ کا اختلاف رحمت ہے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۵۵۲، احتجاج طبری جلد ۲ صفحہ ۱۰۵، ۱۰۶)

اور جنگ کے باوجود امیر معاویہ مسلمان ہیں۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳۰)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انھیں صحابی بھی مانا ہے اور فقیہ بھی۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳۱)

لہذا امیر معاویہ کو صحابی کہنا حق و باطل میں تلبیس نہیں ہے، بل کہ انھیں باغی دین و ملت کہنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث سے ٹکر لینا ہے۔ مولا علی اور امیر معاویہ دونوں حق ہیں جب کہ یزید باطل ہے، امیر معاویہ کو یزید کے ساتھ ملانا حق و باطل کی تلبیس ہے۔

اس سوال میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی ماننے سے حق و باطل کی تلبیس ثابت کرنا اور پھر اس پر و لا تلبسوا الحق بالباطل کو چسپاں کرنا جو اس موضوع پر بہ طور نص وارد ہی نہیں ہوئی اور پھر امیر معاویہ کو صحابی ماننے کو اس آیت کے انکار کے مترادف قرار دینا ایسی حرکت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ سوال گھڑنے والا آدمی یا ٹولہ عالم نہیں ہے۔ اس طرح کی جاہلانہ حرکتیں بعض دوسرے سوالوں میں بھی پائی جاتی ہیں جن پر ہم نے بحث نہیں کی بل کہ خود حسن ظن سے کام لے کر سائل کے مفہوم کو سیدھا کر لیا ہے۔

ایسے لگتا ہے کہ سائل نے صرف اس ایک موضوع پر چند کتابیں پڑھ لی ہیں اور کسی بد تمیزی محبت میں کچھ وقت گزارنے کی وجہ سے منہ پھٹ ہو گیا ہے۔

سائل کو جہالت کی وجہ سے اصل سوال اٹھانے کا سلیقہ نہیں آیا۔ ذیل میں ہم ازراہ احسان وہ سوال خود اٹھا کر اس کا جواب دے رہے ہیں۔

سوال:- حدیث عمار کے آخری الفاظ نہ عنہم الی الحدیث و بدعوتک الی النار سے معلوم

ہو رہا ہے کہ حضرت عمار کا موقف جنتیوں والا تھا اور حضرت عمار کا موقف جہنمیوں

والا تھا۔ نیز یہ حدیث فضیلت سیدنا علی و عمار پر نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اصل

کرنا جائز نہیں۔

جواب:- اولاً: یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ میں اسے ضعیف قرار دیا ہے اور حضرت علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
والامر كذلك فان في سنده ضعيفا يسقط الاستدلال به۔
یعنی بات اسی طرح ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے جس کی وجہ سے اس حدیث سے استدلال ساقط ہوتا ہے۔ (تلمیح البیان صفحہ ۲۵)

فرمائیے! آپ نے ضعیف حدیث کو نص کیسے کہہ دیا؟

ثانیاً: حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے سے پہلے کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوں گے؟ ان کی شہادت سے پہلے یہ حدیث اجتہاد سے منع کرنے والی نص کیسے ٹھہر گئی؟ بل کہ اس شہادت کے واقع ہو جانے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ اجتہاد میں مولا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: سیدنا علی کا اجتہاد صحیح ہونا اور سیدنا معاویہ کا اجتہاد صحیح نہ ہونا حضرت عمار والی حدیث سے واضح ہوا۔ ومما يدل على صحة اجتهاده وخطا معاوية في مراده الخ۔ (شرح فقہ اکبر صفحہ ۶۵)

ثالثاً: حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی فضیلت، تو یہ اجتہاد ان کی فضیلت اور مناقب کے بارے میں نہیں تھا بل کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے بارے میں تھا۔

رابعاً: ان الفاظ سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے لیے جہنم کا استحقاق ثابت ہو رہا ہے۔ پھر لے کہ قاتلوں کی بخشش کا کوئی دوسرا سبب موجود نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بخشش کے لیے شمار اسباب موجود ہیں۔ مثلاً جس مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳)

پنجماً: حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صلح والی حدیث (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳) وغیرہ

بے شمار ہیں۔ ان سے بھی ثابت ہوگا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی ان قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے جہنم کا استحقاق ثابت ہو چکا تھا۔

اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ایسا قاتل اور مقتول مراد ہیں جن کے پاس جنگ کے لیے کوئی تاویل اور بہانہ موجود نہ ہو اور ان کی جنگ محض تعصب کی بنا پر ہو۔ اور ان کے جہنم میں جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جہنم کے حق دار ہوں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اہل حق کا یہی مذہب ہے اور اس طرح کی تمام احادیث میں یہی تاویل ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جس قدر جنگیں ہوئی ہیں وہ اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن سے کام لیا جائے اور ان کے باہمی جھگڑوں کے بارے میں زبان کو لگام دی جائے اور ان کی جنگوں کے بارے میں تاویل سے کام لیا جائے۔ صحابہ مجتہد تھے اور ان کے پاس جنگ کی معقول وجہ موجود تھی۔ انہوں نے نافرمانی کا ارادہ ہرگز نہیں کیا اور نہ ہی دنیا کے لیے جنگ لڑی ہے بلکہ ہر فریق نے یہی سوچا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف باغی ہے اور اس کے خلاف جنگ لڑنا واجب ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ ان میں سے بعض کا موقف درست تھا اور بعض کو غلطی لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اس غلطی میں معذور تھے۔ ان کی یہ خطا اجتہادی تھی اور مجتہد سے جب خطا ہوتی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان جنگوں میں حق پر تھے۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب۔ ایسی صورت حال میں فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد حیرت کا شکار تھی، وہ دونوں گروہوں سے الگ ہو کر کھڑے رہے اور کسی کی طرف سے بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اگر انہیں یقین ہوتا کہ حق کس طرف ہے تو وہ ضرور حق کا ساتھ دیتے اور پیچھے ہٹ کر کھڑے نہ ہوتے۔ (شرح النووی علی مسلم ص ۳۹۰)

امام نووی کی اس عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حدیث عمار کو اگر اس موضوع پر نص سمجھا گیا ہوتا تو بے شمار صحابہ ہرگز غیر جانب داری اختیار نہ کرتے۔

اگر حدیث عمار کو اس کے ظاہر پر رہنے دیا جائے اور ایک گروہ کو جہنمی کہا جائے تو ہماری پیش کردہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث دونوں گروہوں کو معاذ اللہ جہنمی بنا دے گی۔ اب آپ خود فیصلہ کیجیے کہ آپ کو ان احادیث میں تاویل منظور ہے یا مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کو جہنمی کہہ کر خود جہنم میں جانا منظور ہے۔

جو کے آسان دیا گیا

میں نہیں کہتا کہ ایسا کیجیے !

حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خصوصی فضائل

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حدیبیہ سے اگلے سال یعنی سات ہجری میں مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال کاٹنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی ہم شیرہ حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا تمام مومنین کی ماں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کی ہم شیرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ساس ہیں۔ آپ نے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سب سے پہلا ہجری بیڑا تیار کرایا۔ چالیس سال تک مسندِ اقتدار پر فائز رہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سو تریسٹھ احادیث روایت فرمائی ہیں جن میں سے بعض صحیح بخاری جیسی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے مندرجہ ذیل صحابہ نے احادیث روایت کی ہیں: سیدنا ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابودرداء، جریر البجلی، نعمان بن بشیر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم۔

بخاری شریف میں فضائل:-

۱- ایک زبردست حدیث جو عشاق کے مذہب و مسلک کی جان ہے:

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي-

یعنی اللہ جتنا چاہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۱۶)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری چالیس احادیث میری اُمت تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ اسے تقیہ کا کرائے گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ (بخاری جلد ۱ ص ۳)

حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ لفظ بے نیت اور صحابی اور تقیہ ہیں۔ اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالیس احادیث سے چار گنا زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔

حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا چنانچہ میری اُمت کا

اس حدیث میں جن دو گروہوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک گروہ امام حسن کا اور دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا ہے۔ ان دونوں میں صلح اس وقت ہوئی تھی جب مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہو چکی تھی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما شہید ہو چکے تھے۔ اس شہادت کے واقع ہو جانے کے باوجود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کرنے والوں کو فتنۃ مسلّمۃ کہا ہے۔ یعنی مسلمان گروہ۔

۳۔ اسی صحیح بخاری میں ایک اور حدیث اس طرح ہے کہ

أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ فَقَدْ أَوْجَبُوا۔

یعنی میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔

(بخاری جلد ۱ صفحہ ۴۱۰)

سب سے پہلے سمندر پار جہاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور اس حدیث میں ان کی واضح اور زبردست منقبت موجود ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت معاویہ کی منقبت موجود ہے۔ فی ہذا الحدیث منقبتہ لمعاویۃ۔

(حاشیہ بخاری جلد ۱ صفحہ ۴۱۰)

لطف کی بات یہ ہے کہ خارجی حضرات اسی حدیث کے اگلے الفاظ **أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ** سے یزید کا مغفور ہونا ثابت کرتے ہیں اور انہی حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کے بھی منکر ہیں۔ یہ دونوں بہت پسند ٹولے ہیں جب کہ اہل سنت کا مسلک ان کے بین بین ہے اور راہِ اعتدال کا آئینہ وار ہے۔

”متدرک حاکم“ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ

لِفَتْحِ قُسْطَنْطِينِيَّةٍ وَ لِنِعْمِ الْاَمِيرِ اَمِيرِهَا وَ لِنِعْمِ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ۔

یعنی قسطنطنیہ ضرور بر ضرور فتح ہوگا اور اس کا امیر کیا ہی اچھا امیر ہے اور وہ لشکر کیا ہی اچھا لشکر

ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور ذہبی نے اس کی تائید کر دی ہے۔ (متدرک حاکم جلد ۵ صفحہ ۴۳۸)

”متدرک“ کی یہ حدیث عقیدۃ اہل سنت کے لیے آپ حیات سے کم نہیں۔

۴۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمِينِنَا۔

یعنی اے اللہ! ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے یمن میں برکت دے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں!
 آپ ﷺ نے پھر وہی دعا فرمائی، مگر نجد کے لیے دعا نہ فرمائی۔ تین بار ایسا ہی ہوا۔ ہر بار
 صحابہ کرام نے نجد کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ آخر کار آپ ﷺ نے فرمایا:
 هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتْنُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔
 یعنی نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا۔

(بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۵۱)

اس حدیث میں نجد کے خارجیوں کی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے نجد کے لیے دعا فرمانے سے
 انکار کر دیا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خارجی یا غلط آدمی ہوتے تو آپ ﷺ شام کے لیے
 بھی دعا نہ فرماتے۔ آپ ﷺ کا یمن اور شام دونوں کے لیے دعا فرمانا اس بات کا ثبوت ہے کہ
 یمنی اور شامی نبی کریم ﷺ کے نزدیک نجدیوں کی طرح ناپسندیدہ نہیں تھے۔

۵- حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ معاویہ کو کچھ نہ کہو! وہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔

(بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳۱)

۶- سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین معاویہ کا کیا کریں وہ صرف ایک وتر
 پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ اپنے طور پر ٹھیک کرتا ہے، امیر معاویہ فقیہ ہے۔

(بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳۱)

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات اس وقت فرمائی جب جنگ صفین ہو چکی تھی، حضرت عمار بن
 یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے، بل کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بھی گزر چکا تھا۔ یہ ساری باتیں امیر
 المومنین کے لفظ سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے حضرت معاویہ کو امیر المومنین کہا
 گیا اور آپ نے اس کی تردید کرنے کی بجائے انھیں فقیہ کہہ دیا۔ بتائیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما
 کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے جو حبیب کریم ﷺ کے خاندانِ اقدس کے فرزندِ عظیم ہیں!!
 ۷- حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے بال مبارک کاٹنے کا شرف حاصل کیا۔

(بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۳۳)

یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا کلام ہے کہ بخاری میں پائی صحابہ کے لیے مناقب کا لفظ لکھا
 گیا ہے اور اس کا معنی ہے مناقب کا لفظ لکھا گیا ہے۔ اس سے یہ چلتا ہے کہ حضرت امیر
 معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب کی کتاب اس کی کتاب مناقب کے

اندر ذکر عباس ابن عبدالمطلب کا باب بھی موجود ہے، ذکر طلحہ بن عبید اللہ کا باب بھی موجود ہے، ذکر اصہار النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب بھی موجود ہے، ذکر اسامہ بن زید کا باب بھی موجود ہے۔ صرف ذکر معاویہ کے باب پر یک طرفہ اچھل کود کیسی؟

مسلم شریف میں فضائل:-

مسلم شریف میں یہ باب موجود ہے:

من فضائل ابی سفیان بن حرب۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمان فتح مکہ کے موقع پر ابوسفیان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے اور نہ ہی انھیں بٹھارہے تھے۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ سے تین چیزیں مانگتا ہوں، آپ مجھے عطا فرمادیں! فرمایا: کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا: میرے پاس عرب کی سب سے حسین و جمیل بیٹی ام حبیبہ موجود ہے، میں اسے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ فرمایا: ٹھیک ہے۔ عرض کیا: آپ معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں! فرمایا: ٹھیک ہے۔ عرض کیا: آپ مجھے امارت سونپ دیں تاکہ میں جس طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا رہا ہوں اب مشرکین کے خلاف جنگ کر کے بدلہ موڑ سکوں۔ فرمایا: ٹھیک ہے۔

(مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۰۲، صحیح ابن حبان صفحہ ۱۹۳۲)

اس واقعہ سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے مسلمان ہونے کے بعد اسی نکاح کی تجدید اور اس پر اپنے قلبی اطمینان کی بات کر رہے تھے۔ (شرح نووی جلد ۲ صفحہ ۳۰۲)

ترمذی شریف میں فضائل:-

ترمذی شریف میں ایک باب کا نام ہے:

مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔

اس میں دو حدیثیں موجود ہیں۔ اس عنوان میں ”مناقب“ اور ”رضی اللہ عنہ“ کے الفاظ پر

غور کیجیے اور حدیثیں بھی پڑھیے!

۱- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ! اسے ہدایت

دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہم اھدہ بہ۔

(ترمذی جلد ۲ صفحہ ۳۰۲، صحیح ابن حبان صفحہ ۱۹۳۲)

اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر کی **مستدرک** لکھتے ہیں: اس حدیث پر ٹھنڈے دل سے غور کرو! یہ صادق اور صدوق نبی **صلی اللہ علیہ وسلم** کی دعا ہے اور آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** کی اپنی امت کے لیے دعائیں خصوصاً اپنے صحابہ کے لیے دعائیں مقبول ہی مقبول ہیں، کبھی رد نہیں ہو سکتیں۔ غور کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول **صلی اللہ علیہ وسلم** کی اس دعا کو قبول فرمایا اور معاویہ کو لوگوں کے لیے ہادی اور اپنی ذات کے لیے مہدی بنایا۔ جسے اللہ نے یہ دونوں مرتبے عطا فرمادیے اس کے حق میں ان خرافات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جو باطل اور عنادی لوگ اپنے منہ سے ہانک رہے ہیں۔ (تطہیر البیان صفحہ ۱۱۱)۔

۲- سیدنا فاروق اعظم **رضی اللہ عنہ** فرماتے ہیں کہ معاویہ کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کیا کرو! میں نے رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم** کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! اسے ہدایت دے!

(ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۲۲، البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۲۹۹ و اللفظ لہ)

اس حدیث کی شرح میں حضرت امش تابعی **رضی اللہ عنہ** کا قول نقل کر دینا مناسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

لو رايتم معاوية لقلتم هذا المهدي۔

یعنی اگر تم معاویہ کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ واقعی ہدایت یافتہ ہے۔ (طبرانی کبیر جلد ۸ صفحہ ۲۷۶)

مسند احمد میں فضائل:-

۱- اے اللہ! معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا اور اسے آگ سے بچا! اللہم علم معاویہ

الکتاب و الحساب و له العذاب۔ (مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۱۵۷، صحیح ابن حبان صفحہ ۱۹۳۲)

اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن عساکر **رضی اللہ عنہ** لکھتے ہیں:

والله فضيلة جليلة رويت من حديث الشاميين۔

مطلوبہ فضائل میں اچھے معاویہ کی فضیلتِ جليلة بیان ہوئی ہے۔ (الاستیعاب صفحہ ۶۷۸)

۲- حضرت امیر معاویہ **رضی اللہ عنہ** کا ہمدردی کے درمیان سنی کرنے کے بعد مروہ کے پاس نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن

عمر **رضی اللہ عنہ** نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ

حدیث خود معاویہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ معاویہ رسول اللہ ﷺ پر بہتان باندھنے والا آدمی نہیں تھا۔ (مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۲۶، طبرانی کبیر جلد ۸ صفحہ ۲۷۷)

سنن سعید بن منصور میں فضائل:-

۱- حضرت نعیم بن ابی ہند اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھی تھا۔ جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے بھی اذان دی اور امیر معاویہ کے لشکر نے بھی اذان دی۔ ہم نے اقامت پڑھی، انہوں نے بھی اقامت پڑھی۔ ہم نے بھی نماز پڑھی انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ میں نے دونوں طرف سے قتل ہونے والوں کے بارے میں سوچا۔ جب مولا علی رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا، تو میں نے عرض کیا کہ ہماری طرف سے قتل ہونے والوں اور ان کی طرف سے قتل ہونے والوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

فرمایا:

مَنْ قُتِلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ وَالْدارَ الْآخِرَةَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

یعنی خواہ کوئی ہماری طرف سے مارا گیا ہو یا ان کی طرف سے مارا گیا ہو اگر اس کی نیت اللہ کی رضا اور جنت کی طلب تھی تو وہ جنت میں گیا۔ (سنن سعید بن منصور جلد ۲ صفحہ ۳۳۳)

۲- حضرت عمرو بن شریل ہمدانی تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حصہ لینے والوں کے بارے میں متذبذب تھا کہ فریقین میں سے افضل کون ہے؟ میں نے اللہ کریم سے عرض کیا کہ میری راہ نمائی فرمائے جس سے میری تسلی ہو جائے۔ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مجھے اہل صفین کے پاس جنت میں لے جایا گیا۔ میں حضرت علی کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا جو سبز باغ میں اور چلتی نہروں کے پاس موجود تھے۔ میں نے کہا: سبحان اللہ! میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا۔ وہ کہنے لگے: ہم نے اپنے رب کو رؤف اور رحیم پایا۔ میں نے کہا: حضرت معاویہ کے ساتھیوں پر کیا گزری؟ انہوں نے کہا: وہ تیرے سامنے موجود ہیں۔ میں ادھر کو بڑھا تو سامنے ایک قوم تھی جو سبز باغ میں اور چلتی نہروں کے پاس موجود تھی۔ میں نے کہا: سبحان اللہ! میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کہا: ہم نے اپنے رب کو رؤف اور رحیم پایا۔

(سنن سعید بن منصور جلد ۲ صفحہ ۳۳۰، مسند ابی ہند جلد ۸ صفحہ ۲۷۷)

مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل :-

ایک سطر اوپر اس کا حوالہ گزر چکا ہے۔

صحیح ابن حبان میں فضائل :-

اس کے دو حوالے مسلم شریف اور مسند احمد میں فضائل کے ضمن میں گزر چکے ہیں۔

دیگر کتب میں فضائل :-

۱- نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَا مَعْوِيَةَ اِنْ وُلِّيتَ اَمْرًا فَاتَّقِ اللّٰهَ وَاَعِدِلْ۔

یعنی اے معاویہ! جب آپ کو حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا!

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم ﷺ کے اس ارشاد کے بعد مجھے یقین

ہو گیا کہ میں حکم رانی میں جہلا کیا جاؤں گا۔

(مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۱۲۶، مسند ابویعلیٰ جلد ۵ صفحہ ۴۲۹، البدایہ والنہایہ جلد ۸

صفحہ ۱۳۰، مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۳۵۵، دلائل النبوة للشیخ جلد ۶ صفحہ ۴۳۶)

۲- اللہ اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ (تفسیر البیان صفحہ ۱۴)

۳- حضرت امیر معاویہ رسول اللہ ﷺ کے کاتب تھے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام

سے مشورہ لیا کہ معاویہ کو کاتب بنایا جائے یا نہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا: اس سے

کتابت کرو لیا کریں! وہ امین ہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۲۷)

آپ کا کاتب ہونا "مسند احمد" میں بھی مذکور ہے اور اس کی اصل مسلم شریف میں ہے کہ

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ادع لی معاویہ۔

اسی حوالہ کو سرے میں بلا کر لاؤ! (الاصابہ جلد ۲ صفحہ ۱۸۵)

۴- امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ

کان معاویہ یزید بن ابی سفيان قال يا معاوية! ما يلينى منك؟ قال:

كنت اذ كنت ابي سفيان فقلت له يا معاوية!

یعنی ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اے معاویہ! تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے قریب ہے؟ عرض کیا: میرا پیٹ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! اسے علم اور حلم سے بھر دے۔ (المخاض الکبریٰ جلد ۲ صفحہ ۲۹۳)

۵- معاویہ میری امت کا سب سے حلیم اور سخی آدمی ہے۔ (تظہیر البیان صفحہ ۱۲)

۶- اے اللہ! معاویہ کو جنت میں داخل فرما۔ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۲۸)

۷- ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے نبی کریم ﷺ سے کہا: مجھ سے کشتی لڑیں! حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پاس موجود تھے۔ انھوں نے فرمایا: میں تم سے کشتی لڑتا ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے دعا دی کہ معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔

حضرت امیر معاویہ نے اس سے کشتی لڑی اور اسے بچھاڑ دیا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ حدیث یاد ہوتی تو میں معاویہ سے کبھی جنگ نہ لڑتا۔

(المخاض الکبریٰ جلد ۲ صفحہ ۱۹۹، اذکار الخصال جلد ۲ صفحہ ۲۷۸)

۸- محبوب کریم ﷺ نے فرمایا

دَعُوا إِلَىٰ أَصْحَابِي وَاصْهَارِي، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

یعنی میری خاطر میرے صحابہ کو اور میرے سرال کو کچھ نہ کہا کرو! جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۷)

واضح رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے برادر نسبتی یعنی آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔

۹- حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت نبی کریم ﷺ نے دی ہے اور یہ دونوں صحابی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔

(ترغیب جلد ۲ صفحہ ۱۱۵، ابن ماجہ صفحہ ۱۲۱)

جب کہ یہ دونوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لشکر میں شامل تھے اور ان کی شہادت مولا علی کے لشکر کے ہاتھوں ہوئی۔

اب بتائیے! حضرت عمار بن یاسر کی شہادت حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں ہوئی اور حضرت طلحہ و زبیر کی شہادت مولا علی کے لشکر کے ہاتھوں ہوئی، جب کہ عشرہ مبشرہ ہونے والے ان

سب صحابہ کے جنتی ہونے کی گواہی احادیث میں موجود ہے۔

اس پیچیدہ صورتِ حال کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا تو ان کے چہرے پر سے مٹی صاف کی اور فرمایا: ”کاش میں اس واقعہ سے

بیس سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔“ (جمع النوائد جلد ۲ صفحہ ۲۱۳، البدایہ والنہایہ جلد ۷ صفحہ ۲۳۸)

مولا علی کا یہ فرمان صاف بتا رہا ہے کہ مولا علی اپنی فوج کو حضرت طلحہ کا قاتل سمجھ رہے تھے۔

نیز آپ ﷺ نے وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ پڑھ کر فرمایا کہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ

طلحہ، زبیر اور میں انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ آپ کے اس

فرمان سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ فوت ہونے تک ان ہستیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے

بارے میں رنجش موجود تھی۔ اور یہی رنجش قیامت کے دن ختم کر دی جائے گی۔

حضرت امیر معاویہ بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش! میں ذی

طوئی کا قریشی ہوتا اور مجھے حکومت ہی نہ ملی ہوتی۔ (الاکمال مع مشکوٰۃ صفحہ ۶۱۷)

۱۰۔ اسی لیے مولا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین کے بعد فرمایا تھا کہ

قَتَلْتُمْنِي وَ قَتَلْتُمُوهُنَّ فِي الْجَنَّةِ۔

یعنی میری طرف سے قتل ہونے والے اور معاویہ کی طرف سے قتل ہونے والے سب جنتی

ہیں۔ (طبرانی کبیر جلد ۸ صفحہ ۶۷، مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۵۹۶ حدیث: ۱۵۹۲۷)

۱۱۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کی۔ آپ

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارے سامنے قریشی جوان کا گلہ نہ کرو جو غیبے میں بھی ہنستا ہے، رضامندی

کے ساتھ جو چاہے اس سے لے لو، مگر اس سے چھیننا چاہو تو کبھی نہ چھین سکو گے۔

(الاستیعاب صفحہ ۶۷۷)

۱۲۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد معاویہ جیسی

شخص کو کسی کی نظر نہ دیکھی کسی نے کہا: ابو بکر، عمر، عثمان، علی؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! یہ

سب اللہ کے رسول کے ہونے کے بعد ہونے والے ہیں۔

(الاستیعاب صفحہ ۶۷۷)

۱۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کو

پہنچانے کے لیے جنت میں لے جاتا تھا، ان پر لعنت ہو انہیں کیا خبر جہنم

میں کون ہے؟ لعنہم اللہ و ما یدریہم من فی النار۔ (الاستہاب صفحہ ۶۷۹)

۱۳- حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ابو بکر اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا۔ اسی دوران علی اور معاویہ کو بلایا گیا اور دونوں کو ایک کمرے میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں غور سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی باہر تشریف لے آئے۔ اور وہ فرما رہے تھے: رب کعبہ کی قسم! میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں حضرت امیر معاویہ بھی باہر تشریف لے آئے اور فرمایا: رب کعبہ کی قسم! میری بخشش ہو گئی۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۷)

۱۵- مولا علی کے ساتھ اختلاف کے دنوں میں شہنشاہ روم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی علاقے میں مداخلت شروع کر دی تو حضرت امیر معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی سے صلح کر لوں گا اور ہم دونوں مل کر تمہیں تمہارے گھر سے بھی نکال دیں گے اور تیرے لیے زمین تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ شہنشاہ روم خوف زدہ ہو گیا اور صلح پر مجبور ہو گیا۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۲۶، تاج العروس جلد ۷ صفحہ ۲۰۸)

۱۶- جب مولا علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو قتل کا یہ منصوبہ تین افراد کے خلاف تیار کیا گیا تھا: حضرت مولا علی، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمرو بن عاص صاف بچ گئے، امیر معاویہ زخمی ہوئے اور مولا علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۷ صفحہ ۲۱۳)

۱۷- اس واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ تینوں ہستیاں ایک جان تھیں اور ان کا دشمن مشترک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک قمیص پہنائی تھی اور ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قمیص، چادر، ناخن اور بال مبارک بھی موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے حضور والی قمیص کا کفن پہنا کر آپ والی چادر میں لپیٹ کر، ناخن اور بال مبارک میری آنکھوں اور منہ پر رکھ دیے جائیں اور مجھے اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔

(الاستہاب صفحہ ۶۸، الاکمال ج ۱ صفحہ ۱۱۱ و ۱۱۲)

اسد الغابہ ۳/۳۸۷، تاج العروس ج ۸ صفحہ ۱۲۸/۸

۱۸- مشہور و معروف تابعی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ سجدے میں پڑ گئے اور باری باری اپنے رخسار زمین پر رکھ کر روپے لگے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ! میری مغفرت فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما، تو وسیع مغفرت والا ہے اور خطا کاروں کے لیے تیرے سوا کہیں پناہ نہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو تقویٰ کی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۹-۱۵۰)

یہ سب باتیں اور خصوصاً وفات کے وقت آپ کی زبان مبارک پر اتَّقُوا اللہ کے الفاظ کا جاری ہونا آپ رضی اللہ عنہ کا خاتمہ ایمان پر ہونے کی واضح دلیل اور مثبت ترین قرائن ہیں۔
محدثین کے اقوال:-

۱- محدثین رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں فضائل معاویہ اور ذکر معاویہ کے نام سے باب قائم فرمائے ہیں جن میں سے بہت سی احادیث آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔

۲- امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے کسی نے مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی:
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُغْنِيْكُمْ اَعْمَالُكُمْ عَنْ اَعْمَالِ اٰبِئِكُمْ وَلَا اَوْلَادِكُمْ وَلَا اَمْوَالِكُمْ اِنْ سَلَّمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَاُولٰٓئِكَ يَكُوْنُوْنَ اَعْمٰلًا
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُغْنِيْكُمْ اَعْمَالُكُمْ عَنْ اَعْمَالِ اٰبِئِكُمْ وَلَا اَوْلَادِكُمْ وَلَا اَمْوَالِكُمْ اِنْ سَلَّمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَاُولٰٓئِكَ يَكُوْنُوْنَ اَعْمٰلًا

یعنی یہ ایک قوم ہے جو تم سے پہلے گزار چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۹)

۳- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ اَوْ عُمَرَ اَوْ عِثْمَانَ اَوْ عَلِيًّا اَوْ مَعَاوِيَةَ اَوْ عُمَرَ بْنَ الْعَاصِ يَقُوْنَ اَنْفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَاُولٰٓئِكَ يَكُوْنُوْنَ اَعْمٰلًا
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ اَوْ عُمَرَ اَوْ عِثْمَانَ اَوْ عَلِيًّا اَوْ مَعَاوِيَةَ اَوْ عُمَرَ بْنَ الْعَاصِ يَقُوْنَ اَنْفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَاُولٰٓئِكَ يَكُوْنُوْنَ اَعْمٰلًا

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، عمرو بن العاص میں سے کسی ایک کے پاس سنا کہ انہیں اپنے آپ کو قیامت کے دن جانے گا اور اگر

- اس نے صرف گالی دی ہے تو اسے ذلت آمیز سزا دی جائے گی۔ (اشفا جلد ۲ صفحہ ۲۶۷)
- ۴- علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مناقب اپنی کتاب ”الاستیعاب“ کے صفحہ ۶۷۶ سے لے کر ۶۸۰ تک بیان فرمائے ہیں جن میں سے چند ایک مناقب ہم نے اس رسالے میں متعدد مقامات پر بیان کر دیے ہیں۔
- ۵- حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

لما صالح الحسن و اجتمع عليه الناس فسمى ذلك العام عام الجماعة۔
یعنی جب حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کے ساتھ صلح فرمائی اور تمام لوگ متحد ہو گئے تو اس سال کا نام جماعت کا سال رکھا گیا۔ (الاصابہ جلد ۳ صفحہ ۱۸۵۶)

- ۶- حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کا امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے صلح فرمانا امیر معاویہ کی امارت کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے۔ (افعال المعات جلد ۲ صفحہ ۶۹۷)
- ۷- حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے بزرگوں نے ان جنگوں کے بارے میں خاموش رہنے کو پسند فرمایا ہے اور نصیحت کی ہے کہ

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْدِينَآ فَلَا نُلَوِّثُ بِهَا السِّنَّةَ۔

یعنی جن لوگوں کے خون سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا، ان کی غیبت کر کے ہم اپنی زبانوں کو ناپاک کیوں کریں۔ (مرقاۃ جلد ۱۱ صفحہ ۳۷۹)

- ۸- علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکمل کتاب حضرت امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھی ہے جس کا نام ”تطہیر الجنان“ ہے۔

- ۹- حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ
- وَ مَنْ يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِنْ كِلَابِ الْهَآوِيَةِ
یعنی جو امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔

(شمس الرياض جلد ۳ صفحہ ۴۳)

- ۱۰- امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن اور امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صلح والی حدیث بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں:

و به ظهر ان الطعن على الامير معاوية طعن على الامام المحسن بل

على جده الكريم صلی اللہ علیہ وسلم بل على و به عروجل الخ۔

”اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و راصل امام حسن مجتبیٰ پر طعن ہے، بل کہ ان کے جدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن ہے، بل کہ ان کے رب عزوجل پر طعن ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی باگ ڈور کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے اور اگر سیدنا امیر معاویہ غلط ہیں جیسا کہ طعن کرنے والے کہہ رہے ہیں تو پھر اس خیانت کے مرتکب۔ معاذ اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ ٹھہریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیانت پر رضاً لازم آئے گی اور یہ وہ ہستی ہے جس کی شان میں و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى وارد ہے۔ یہ جملے اس شخص کو فائدہ دیں گے جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے۔“

(المستند المعتمد صفحہ ۱۹۹)

۱۱۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے ”فتح الباری“ میں، علامہ قسطلانی نے ”ارشاد الساری“ میں، علامہ کرمانی نے ”شرح کرمانی“ میں اور بے شمار محدثین نے اپنی اپنی کتب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی ہے اور ان پر زبان درازی سے منع فرمایا ہے۔ علیہم الرحمة و الرضوان الغفران۔

صوفیہ کے اقوال:

اس سے پہلے (۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خواب اور (۲) حضرت عمرو بن شریک ہمدانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جمنے والی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۶)

۴۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ساری زندگی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں رہے۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں شہزادے بہ خوشی اسے قبول فرماتے رہے۔

۵۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ضرورت منداپنی لائی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے دیا اور کہا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری دیر میں اسے لے کر آؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے دیا اور کہا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے۔

قاصد نے عرض کیا کہ امیر معاویہ دیر سے وظیفہ پیش کرنے پر معذرت کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے وہ پانچوں تھیلیاں ضرورت مند کو دے دیں اور اتنی دیر بٹھائے رکھنے پر معذرت چاہی۔

(کشف المحجوب صفحہ ۷۷)

۵- حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خلفاء امرا اور صالحین کی وفات کے حالات میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر فرمایا ہے، آخری وقت میں آپ کا تسبیح اور ذکر کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ کفن دینے کی وصیت کرنا اور اولیائے کاملین کی طرح رقاق ظاہر کرنا تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ لہذا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان الوفاة الخ۔ (احیاء العلوم صفحہ ۱۹۶)

۶- حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: رہا امیر معاویہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کا معاملہ؛ تو وہ بھی حق پر تھے اس لیے کہ وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور قاتل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھے۔ پس ہر فریق کے پاس جنگ کے جواز کی ایک وجہ موجود تھی۔ لہذا ہمارے لیے سکوت اس سلسلہ میں سب سے اچھی بات ہے، ان کے معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ وہ سب سے بڑا حاکم اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب پر نظر ڈالیں اور دلوں کو گناہوں کی چیزوں سے اور اپنی ظاہری حالتوں کو تباہی انگیز کاموں سے پاک اور صاف رکھیں۔

(غنیۃ الطالبین صفحہ ۱۸۶)

۷- حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مثنوی“ شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہایت ایمان افروز واقعہ شعروں میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت امیر معاویہ کو نماز کے وقت تھکیاں دے کر سلا دیا۔ جب وہ جاگے تو نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ آپ نماز کے قضا ہونے پر سخت روئے اور پشیمان ہوئے۔ دوسرے دن شیطان نے انھیں بروقت جگا دیا۔ آپ نے شیطان سے پوچھا کہ تم تو لوگوں کو غافل کرنے پر لگے ہوئے ہو، آج تم نے مجھے نماز کے لیے کیسے جگا دیا؟ شیطان نے کہا: کل نماز کے قضا ہونے پر آپ اتنا روئے اور پشیمان ہوئے کہ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اجر دے دیا۔ آپ کو ملنے والا وہ اجر دیکھ کر میں نے سوچا کہ آپ کو غافل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز ہی پڑھ لیں۔ اس کے لیے مولانا روم نے یہ دعویٰ لکھا ہے:

بیدار کردن ابلیس حضرت امیر المومنین معاویہ را کہ بر خیز کہ وقت نماز است۔
یعنی ابلیس کا امیر المومنین معاویہ کو جگانا کہ اٹھو نماز کا وقت ہے۔

(مثنوی معنوی مولانا روم دفتر دوم صفحہ ۲۴۸)

۸- ایک اللہ کے ولی نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی۔ آپ ﷺ کے پاس ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور معاویہ موجود تھے۔ راشد الکندی نامی ایک شخص آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ شخص ہم میں نقص نکالتا ہے۔ کنڈی نے کہا: یا رسول اللہ! میں ان سب میں عیب نہیں نکالتا، بل کہ صرف اس ایک میں عیب نکالتا ہوں۔ اُس نے حضرت امیر معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک نیزہ پکڑا اور معاویہ کو دے دیا اور فرمایا: یہ اس کے سینے میں مارو! انھوں نے اسے نیزہ مار دیا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ راشد کنڈی کو رات کے وقت سچ سچ کسی نے مار دیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۴۷)

۹- حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ ہم سے بغاوت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں۔ یہ لوگ نہ کافر ہیں نہ فاسق۔ کیوں کہ ان کے پاس تاویل موجود ہے جو انھیں کافر اور فاسق کہنے سے روکتی ہے۔ اہل سنت اور رافضی دونوں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کو خطا پر سمجھتے ہیں اور دونوں حضرت امیر کے حق پر ہونے کے قائل ہیں، لیکن اہل سنت حضرت امیر سے جنگ کرنے والوں کے حق میں محض خطا کے لفظ سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنا چاہتے نہیں سمجھتے اور زبان کو ان کے طعن و تشنیع سے بچاتے ہیں اور حضرت خیر البشر ﷺ کا صحابی ہونے کا حیا کرتے ہیں۔

(کتوبات امام ربانی جلد ۲ صفحہ ۹۵ مکتوب نمبر ۳۶)

۱۰- امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم ترین صوفی بزرگ ہیں اور حضور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑی عزت پر جاک ہیں۔ آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "الفتاویٰ" میں فرمایا ہے: "وہ سبھی یہ ہے:"

اللہم انزل علیہ من السماء ماء یطہر بہ وجوب إعطایہم

یعنی صحابہ کے باہمی جھگڑوں کے بارے میں زبان کو لگام دینا واجب ہے اور ان سب کے ماجور ہونے کا اعتقاد واجب ہے۔

اس عنوان کے تحت آپ نے زبردست بحث فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر بعض تاریخ دانوں کی خلاف تحقیق باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہئیں اور تاریخ پڑھتے وقت صحابہ کرام ~~کو~~ کے مرتبے اور مقام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ صحابہ کا مرتبہ قرآن و سنت سے ثابت ہے جب کہ تاریخ محض کچی پکی باتوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ~~نے~~ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا سُبُوقَنَا فَلَا نَحْضِبُ بِهَا الْكِسْتَنَاءَ۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے خون سے ہماری تلواروں کو بچالیا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی غیبت کر کے کیوں گناہ گار کریں۔

یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اپنے کندھوں پر لادا اور ہم تک پہنچایا۔ ہمیں نبی کریم ~~صلی اللہ علیہ وسلم~~ کی طرف سے ایک لفظ بھی اگر پہنچا ہے تو انہی کے واسطے سے پہنچا ہے۔ لہذا جس نے صحابہ پر طعن کیا اس نے اپنے دین پر طعن کیا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان ہونے والی غلط فہمیوں کا معاملہ نہایت نازک اور دقیق ہے۔ اس میں رسول اللہ ~~صلی اللہ علیہ وسلم~~ کے بغیر کوئی شخص فیصلہ دینے کی جرات نہ کرے۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ حضور کی اولاد اور حضور کے صحابہ کا ہے۔ آگے کمال الدین بن ابی یوسف ~~رحمہ اللہ~~ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ

ليس المراد بما شجر بين علي و معاوية المنازعة في الامارة كما توهمه بعضهم و انما المنازعة كانت بسبب تسليم قلة عثمان رضي الله عنه الي عشيرته ليقتصوا منهم الي اخره۔

”علی اور معاویہ کے درمیان جو براہِ رائے جھگڑا ہوا اس سے مراد حکومت کی خاطر جنگ لڑنا نہیں ہے جیسا کہ بعض شیعہ کو وہم ہوا ہے۔ یہ جھگڑا محض اس بات کا تھا کہ عثمان ~~رضی اللہ عنہ~~ کے قاتلوں کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ قصاص لے سکیں۔ علی ~~رضی اللہ عنہ~~ کی رائے یہ تھی کہ ان کو گرفتار کرنے میں تاخیر کرنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ حضرت علی ~~رضی اللہ عنہ~~ کے لشکر میں کٹے ہوئے تھے۔ ایسی صورت حال میں قاتلوں کو گرفتار کرنا حکومت کو ہلا کر رکھ دینے کے

مترادف تھا، اس لیے کہ جنگِ حمل کے دن جب سیدنا علیؑ نے سیدنا عثمانؓ کے قاتلوں کو فوج سے نکل جانے کا حکم دیا تھا تو ان میں سے بعض ظالموں نے امام علی کے خلاف خروج کرنے اور انہیں قتل کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ اس کے برعکس حضرت معاویہؓ کی رائے یہ تھی کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کرنا چاہیے۔ اب یہ دونوں ہستیاں مجتہد ہیں اور دونوں کو اجر ملے گا۔“ (الہی اقیقہ، الجواہر جلد ۲ صفحہ ۲۴۵)

۱۱- حضرت علامہ جلال الدین سیوطیؒ لکھتے ہیں:

و کان من المؤلفۃ قلوبہم ثم حسن اسلامہ و کان احد الکتاب
لرسول اللہ ﷺ۔

یعنی پہلے ان کے قلب کی تالیف ہوئی، پھر ان کے اسلام میں حسن آ گیا، اور آپ ص رسول اللہ کے کتابوں میں سے تھے۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۵۲)

۱۲- حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

باید دانست کہ معاویہ بن ابی سفیانؓ کے از اصحاب آں حضرت ﷺ بود و صاحب فضیلت و جلیلہ در زمرہ صحابہؓ و نہار در حق اوسوی ظن کنی و در ورطہ سب او نہافتی تا مرتکب حرام نشوی۔

”جاننا چاہیے کہ معاویہ بن ابی سفیانؓ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے ایک ہیں اور جلیل القدر فضیلت کے مالک ہیں، تم کبھی بھی ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور انہیں ہما بھلا کہنے کی معصیت میں جہلا نہ ہونا ورنہ تم حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے۔“ (از لہ اہل جلد ۱ صفحہ ۱۳)

۱۳- حضرت علامہ عبدالحق دہلویؒ کے پاس علم لدنی تھا۔ آپ کسی استاد کے پاس نہیں چلے گئے تھے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہؓ کی شان میں ایک کھل رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام ہے ”تاریخ من و معاویہ“۔ نیز اپنی کتاب ”نیراس“ میں لکھتے ہیں:

ان صحابہ رضی اللہ عنہم من كبار الصحابة و نجباہم و مجتہدہم و
رسول اللہ ﷺ نے ان سے علم لدنی ہی اللہ جل جلالہ نے انہیں عام الاحادیث
اور احادیث خاصہ سے سیکھا اور ان سے صحابہ رضی اللہ عنہم بل قد ورد

فیه بخصوصہ احادیث کقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا و اهد بہ۔ رواہ الترمذی و قولہ علیہ السلام: اللہم علم معاویۃ الحساب و الكتاب و قہ العذاب۔ رواہ احمد و ما قبل من انہ لم تثبت فی فضلہ حدیث فمحل نظر الخ۔

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، آپ نجیب اور مجتہد صحابی ہیں، اگر آپ کو چھوٹا صحابی بھی مانا جائے تو آپ بلاشبہ ان احادیث کے عموم میں داخل ہیں جو صحابہ کی شان میں وارد ہوئی ہیں جب کہ آپ کے حق میں خصوصی احادیث بھی موجود ہیں جیسے آپ رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ اے اللہ! معاویہ کو ہادی مہدی بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے! (ترمذی)۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کا فرمانا: اے اللہ! معاویہ کو حساب اور کتاب سکھا اور اسے عذاب سے بچا! (احمد) اور یہ جو کسی نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی شان میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ سلف صالحین کے سامنے جب کوئی امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا تو وہ غضب ناک ہو جاتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ معاویہ ایک وتر پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا: اسے کچھ نہ کہو! وہ فقیہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ (بخاری) اور ایک آدمی نے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آپ کو گالی دی، تو انہوں نے اسے کوڑے مردائے اور ایک اور آدمی نے کہا: یزید آخری امیر المومنین ہے۔ آپ نے اسے بھی کوڑے مردائے۔ امام جلیل عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ؟ آپ نے فرمایا معاویہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راہ جہاد تھا تو ان کے گھوڑے کی گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ہم نے اس موضوع پر ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ’الناہیہ عن ذم معاویہ‘ ہے۔“ (نیر اس ص ۲۳)

۱۲- حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مشن والے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو متقی اور اکابر صحابہ میں سے ہیں کے حق میں بغض و حسد رکھنا اور بدگمانی کرنا سراسر شقاوت ہے۔ (مناہج البلاغ ص ۱۱۱)

۱۵- ہمارے مرشد کریم قطب الاقطاب فقیہ اعظم حضرت پیرسائیں مفتی محمد قاسم مشوری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ارقام فرماتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان سے افضل سمجھنا گم راہی اور مذہب اہل سنت سے خروج ہے۔ اسی طرح کسی بھی صحابی بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرنا اسلام پر جرح کو مستلزم ہے اور نصوص قطعہ کے انکار کے مترادف ہے۔ و هو تعالیٰ اعلم۔

کتاب الفقیر محمد قاسم عفی عنہ۔

۱۶- شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے باہمی نزاع کو ہم تشابہات کے درجہ میں رکھیں گے۔ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ان کے مرتبہ اور ان کی عظمت میں کسی قسم کا شک کریں اور کیوں کر کریں جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو! اور فرمایا: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک مسلم اور محکم امر ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم مفضول علیہ کی افضلیت کا بھی انکار نہیں کرتے اور یاد رکھیں کہ وہ تمام روایات جو اس نزاع کی تفصیل میں وارد ہیں وہ یا تو طبری مؤرخ سے مروی ہیں جو اسماء الرجال کی کتب کی تصریح کے مطابق مردود الروایت ہے اور ابن جریر طبری بلاشبہ شیعہ ہے۔ البتہ ابن جریر طبری مفسر ثقہ (معتبر) لوگوں سے ہے یا وہ روایات ابن کثیر سے ہیں، جو الامتہ والسیاستہ کا مصنف ہے جو سراسر جھوٹا اور سطرکی ہے یا پھر وہ روایات مؤرخ داقدی سے مروی ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اس لیے کہ اس کی روایت پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ روایات میں کثرت روایات میں من گھڑت روایات بیان کی گئی ہیں۔ ان کی روایت میں کثرت روایات پر کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ ان کی روایت میں کثرت روایات پر کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ ان کی روایت میں کثرت روایات پر کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ ان کی روایت میں کثرت روایات پر کیسے فیصلہ کرنا ہے؟

بے شک وہ کاتبِ وحی ہیں اور اُمّ المؤمنین (اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا) کے بھائی ہیں اور یقیناً شام و عراق سے یہود کے فتنوں کا قلع قمع کرنے والے ہیں کہ ان کی حکمتِ عملی نے آتشِ کدہ عجم کو بجھا کر رکھ دیا جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھو اور ان کا مسلک اختیار کرو! (انوارِ قریہ صفحہ ۳۶۹، ۳۷۰)

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے اس اقتباس کو بار بار پڑھیے۔ آپ نے چند سطور میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، اولیاء اللہ کا نام لے کر ان کا مسلک واضح کر دیا ہے اور چور کو اس کے گھر تک پہنچا دیا ہے۔

اگر یہ تمام اولیاء علیہم الرضوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو پھر آپ کو وہ جنت مبارک ہو جو اولیاء کی دشمنی کے نتیجے میں ملا کرتی ہے۔
عقائد کی کتب میں تعلیم:-

عقائد کی تمام کتابوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کو لگام دینے پر زور دیا گیا ہے۔ (شرح عقائد نسلی صفحہ ۱۶۳، شرح فقہ کبر صفحہ ۶۵، نبراس صفحہ ۳۰۷، الیواقیت والجوہر جلد ۲ صفحہ ۴۴۵)

شیعہ کی کتب میں فضائل:-

۱- مولانا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ

إِنَّا لَم نَقَابِلُهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمْ وَ لَمْ نَقَابِلُهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا لِكِنَّا
رَأَيْنَا إِنَّا عَلَى حَقِّ وَ رَأَوْنَا أَنَّهُمْ عَلَى حَقِّ-

یعنی ہم انہیں کافر قرار دے کر ان سے جنگ نہیں لڑ رہے اور نہ ہی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، بل کہ ہمارے خیال کے مطابق ہم حق پر ہیں اور ان کے خیال کے مطابق وہ حق پر ہیں۔ (قرب الاسناد/۱/۴۵)

۲- إِنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام لَمْ يَكُنْ يُنْسَبُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ حَرْبِهِ إِلَى الشِّرْكِ وَ لَا إِلَى النِّفَاقِ وَ لَكِنْ يَقُولُ: هُمْ إِخْوَانُنَا بَعَثُوا عَلَيْنَا-

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفوں کو نہ ہی مشرک سمجھتے تھے اور نہ ہی منافق، بل کہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ (قرب الاسناد/۱/۴۵)

یہی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔

(سنن ابی جلد ۸ صفحہ ۱۷۲، ۱۷۳، المصنفات جلد ۲ صفحہ ۳۱۷)

مولاعلیٰ کے فرمان سے واضح ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر کہنے والا مولاعلیٰ کے فیصلے کا منکر ہے اور ایک مصدقہ مسلمان کو کافر کہہ کر خود کافرانہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر معاویہ سے دشمنی کرنے والا مولاعلیٰ کے بھائی سے دشمنی کر رہا ہے۔

آج جو لوگ مولاعلیٰ سے جنگ کی وجہ سے امیر معاویہ کو کافر اور جہنمی کہہ رہے ہیں کیا ان میں ہمت ہے کہ وہ مولاعلیٰ کا ایسا قول دکھاسکیں جس میں انھوں نے امیر معاویہ کو کافر اور جہنمی قرار دیا ہو؟ بل کہ اکتا مولاعلیٰ انھیں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں اور ان کی منافقت نہیں بل کہ اجتہادی اختلاف تسلیم کر رہے ہیں۔

۳۔ مولاعلیٰ فرماتے ہیں کہ ابتدا اس طرح ہوئی کہ ہمارا اور شام والوں کا آنا سا منا ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا رب بھی ایک، ہمارا نبی بھی ایک، ہماری دعوت اسلام بھی ایک، نہ ہی ہمارا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کی تصدیق میں ان سے بڑھ کر ہیں اور نہ ہی وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے۔ معاملہ بالکل برابر تھا۔ اگر اختلاف تھا تو صرف عثمان کے خون میں اختلاف تھا حالانکہ ہم اس سے بری تھے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۴۳۳)

۴۔ اِخْتِلَافٌ اَصْحَابِيٌّ لَكُمْ رَحْمَةٌ۔

یعنی میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ (احزاب طبری جلد ۲ صفحہ ۱۰۵، ۱۰۶)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اس قدر دلائل کے ہوتے ہوئے ان پر زبان درازی کرنا محض بد نصیبی کی علامت ہے۔ اصول یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا واجب ہے اور اگر اس کا کوئی نقص یا عیب نظروں میں آئے بھی تو جہاں تک ہو سکے اس میں صحت کا پابلاش کر کے اسے غفلت سے چھپانا ضروری ہے۔

اللہ عام آدمی کے حق میں احتیاط اور حسن ظن ضروری ہے تو ایک صحابی کا تب و جی، محبوب و دشمن کے بارے میں کتنا حسن ظن ضروری ہوگا اور پھر اس کے بارے میں کتنا احتیاط اور حسن ظن ضروری ہوگا۔ ان کے بارے میں لب کشائی کرتے وقت کتنی

میرے عزیز! اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگوں میں مولا علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ کا موقف درست نہ تھا، مگر اس کے باوجود انھیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دیا ہے، لہذا ہم ان کی خطا کو اجتہادی خطا اور اچھی نیت پر محمول کرتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے جس کا آپ نے بتلنا بنا دیا ہے۔

آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب نکالتے رہتے ہیں اور ہم نہایت ادب اور احتیاط کے ساتھ ان کا بہتر محمل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔

قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ

لَعْنٌ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَاهَا۔

یعنی اس امت کے بعد والے لوگ پہلے والوں پر لعنت بھیجیں گے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ صفحہ ۴۷۰)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک ایسی قوم نکلے گی جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرے گی، اسلام کو رسوا کرے گی، دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے۔ ان کے نظریات عجیب ہوں گے۔ انھیں رافضی کہا جائے گا۔ وہ مشرک لوگ ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ اور جماعت میں نہیں آئیں گے۔ اپنے سے پہلے لوگوں پر طعن و تشنیع کریں گے۔ (دارقطنی کتاب الافراد، صواعق مرقۃ صفحہ ۱۶۱)

واضح رہے کہ آپ کے دوسرے بھائی (خارجی) مولا علی کو غلط کہتے پھرتے ہیں۔

حضور غوث اعظم قدس سرہ لکھتے ہیں کہ خارجیوں کا قول اس کے خلاف ہے اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی امام برحق نہ تھے۔ (غنیۃ الطالبین صفحہ ۱۸۶)
چنانچہ ایک خارجی لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ کا موقف ہر اعتبار سے صحیح تھا اور حضرت علی کا صحیح نہ تھا اپنی سیاسی مصلحتوں پر مبنی تھا۔

(تحقیق مزید یہ سلسلہ خلافت معاویہ و یزید صفحہ ۱۳۷ مصنف عظیم الدین خارجی)

یہ بھی واضح رہے کہ محمود عباسی اینڈ کمپنی خارجیوں نے سیدنا امام حسین علی ہدیہ و علیہ الصلوٰۃ و السلام کو بھی باغی کہہ دیا ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

ہمارے نزدیک آپ میں اور ان خارجیوں میں کوئی فرق نہیں، بل کہ بے ادبی اور بد تمیزی، بل کہ بد بختی قدر مشترک ہے۔ اہل سنت کا مذہب رافضی اور خروج کے درمیان اختلاف کا آئینہ دار ہے۔

حرفِ آخر

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا عقیدہ قائم کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ہند احمد، سنن سعید بن منصور، مصنف ابن ابی شیبہ اور البدایہ والنہایہ جیسی کتابوں سے ہم نے آپ کے جو فضائل نقل کیے ہیں انہیں فراموش نہ کیا جائے۔

تایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغاوت کے باوجود مسلمان قرار دیا ہے۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳۰)
تایا: مولا علی رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں بغاوت کے باوجود بالکل اپنے جیسا مسلمان تسلیم کیا ہے۔

(سج البلاغہ صفحہ ۴۲۲)

رابعاً: امام حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں خلافت سونپ کر واضح فرمادیا ہے کہ امیر معاویہ مسلمان تھے، ورنہ لازم آئے گا کہ آپ نے - معاذ اللہ - ایک کافر اور جہنمی کو خلافت سونپی اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔

خامساً: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت امیر معاویہ کو بغاوت کے بعد امیر المومنین بھی تسلیم کیا ہے اور صحابی ماننے کے علاوہ فقیہ بھی قرار دیا ہے جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اہل بیت کے عقیم فرد ہیں۔ (بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۳۱)

سادساً: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی اکثریت گم راہ نہیں ہو سکتی۔

(ترمذی جلد ۲ صفحہ ۳۹، ابن ماجہ صفحہ ۲۸۳)

جب کہ مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت پر مشتمل ہے اور اہل سنت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی مسلمان اندازتے تھے ہیں۔

سابعاً: بڑوں کے درمیان ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ناراضگیاں نبیوں، صحابیوں، رسل اور اہل بیت کے درمیان بھی ہوتی رہی ہیں۔ ان کی بنا پر اپنے سے بڑے بزرگوں پر زبان

درانی کے بارے میں لکھی گئی ہے۔

آپ کی تعریف کے لیے لکھی گئی ہیں تو احتیاطاً ہی من ہے کہ ادب کا دامن نہ

کسی کا ادب کرنا بہتر ہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی بات میں صحت کا پہلو تلاش کر کے اسے کفر کے فتوے سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر کسی نے دوسرے کو کافر کہا اور وہ فی الواقع کافر نہیں ہے تو اسے کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ (مسلم جلد ۱ صفحہ ۵۷)

بعض بد قسمت لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی ثابت کرنے کے لیے جتنی محنت سے کام لے رہے ہیں اس قدر محنت اور تکلف ویسے ہی جائز نہیں ہے، خواہ کسی عام آدمی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ چہ جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو پھر بھی ایک صحابی ہیں اور ان کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان ہو چکے ہیں۔ خوب سمجھ لیجیے یہ جملہ بہت قیمتی ہے۔

ابن عساکر نے ابوزرہ رازی سے روایت کیا ہے کہ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ میں معاویہ سے بغض رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا: کس وجہ سے؟ اس نے کہا: اس لیے کہ اس نے علی سے جنگ لڑی تھی۔ ابوزرہ نے فرمایا: تیرا خانہ خراب! معاویہ کا رب رحیم ہے اور معاویہ سے جنگ کرنے والا علی کریم ہے۔ تمہیں ان دونوں کے درمیان پنکا لینے کی کیا ضرورت ہے۔

(البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۷)

الناهيه عن طعن امير المؤمنين معاويه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عنہ اللہ علی حسن الاعتقاد وحب النبی وحب العترۃ و الصحابۃ
بالاقتصاد علی اللہ علی سیدہم وعلیہم وبلغ منا السلام الیہ اللہم

بعد ازاں

اسے رفیق مجھ سے یہ رسالہ الناہیہ، عن طعن معاویہ مقبول
کر اور جماعت تاجیہ، راضیہ عالیہ کی اتباع کر اور فرقہ عالیہ، سرکش و خیرہ سے
دور رہ، نیز وہابیات اور خالی خولی خطابات کو چھوڑ دے اور عبد العزیز بن
احمد بن حامد علیہ الرحمۃ کی کامیابی و کامرانی کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ
اس کی تصانیف میں برکت فرمائے اور حاسدوں سے ان کو محفوظ فرمائے،
اللہ تعالیٰ مقدر و مددگار ہے۔ وہی اول وہی آخر ہے۔ کتاب چند فضول پر
مشتمل ہے۔

فصل: چند فضائل صحابہ کرام مطہرہ

اس سلسلے میں قرآن کریم میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے لئے
کافی ہے: "وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل جنگ لڑی اور اللہ کی راہ میں
خرچ کیا ہرگز نہیں بکے وہ ان لوگوں سے بڑے درجہ کے مالک ہیں کہ
جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ہی پہل اللہ خرچ کیا اور جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ کا
رعون رکھنے والی ہے۔" سورۃ المدثر آیت ۱۰

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کی خدمت کے لئے جنت کی خدمت کے
لئے جنت کی خدمت کے لئے جنت کی خدمت کے لئے جنت کی خدمت کے لئے

نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے۔ "بخاری، ترمذی، حاکم"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے حضور اکرم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ بہتر ہیں۔ "الحدیث، بخاری، مسلم، منہج، ترمذی"

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی کہ جس نے مجھے دیکھا یا جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ "ترمذی، ضیاء المقدسی"

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور اس کے لئے بھی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ "عبد بن حمید، ابن عساکر"

حضرت عبد اللہ ابن بسیر سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور اس شخص کے لئے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس کے لئے خوشخبری اور بہترین ٹھکانے ہے۔ "طبرانی، حاکم"

حضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، کہ کھانا بغیر نمک کے صحیح نہیں ہوتا۔ "شرح السنۃ للبیہقی، سنن البیہقی"

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے حضور اکرم نے فرمایا کہ میرا صحابی زمین کے جس خطے میں فوت ہوگا تو وہ قیامت کے دن وہاں کے لوگوں کے لئے مینارۃ نور اور قائد کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ "ترمذی نے اس کو غریب کہا ہے، ضیاء المقدسی"

انہی ابو موسیٰ اشعری سے مرفوعاً روایت ہے کہ ستارے آسمان کے لئے امن ہیں جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو آسمان خوفناک معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے صحابہ کے لئے جائے امن ہوں، جہاں میں ”دوسری دنیا میں“ چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ مصیبت میں گھر جائیں گے اور میرے صحابہ میری امت کے لئے باعثِ امن ہیں۔ جب میرے صحابہ بھی رخصت ہو جائیں گے تو میری امت خوفناک پریشانی میں گھر جائے گی۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسند امام احمد میں ہے کہ آسمان کی خوفناکی اس کا پھٹ جانا ہے، صحابہ کے لئے اختلاف و حزن ہوگا اور امت حکمرانوں کے مظالم و مصائب میں گرفتار ہو جائے گی۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرو اس لئے کہ وہ تم میں سے بہتر ہیں۔ ”سائل بن عبد یحییٰ“
 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد اپنے صحابہ کے مابین باہمی اختلاف کے متعلق رب تعالیٰ سے سوال کیا تو بندر لایا وہی مجھے جواب دیا گیا کہ ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے، بعض بعض سے قوی ہیں لیکن نور ہر ایک کے لئے ہے۔ یہاں صحابہ کے باہمی اختلاف کے وقت جس نے بھی کسی کی اتباع کر لی تو وہ میرے نزدیک راہِ ہدایت پر ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں جس کی بھی اتنا اندازہ کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس کو زید نے حضرت ابو سعید خدری سے نقل کیا ہے۔ ”ابو سعید خدری کے نزدیکی میں کلام ہے۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے اور باطل ہے، ابن ماجہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے۔“

فصل: صحابہ پر طعن کی ممانعت

حضرت ابو سعید خدری سے مرفوعاً روایت ہے آنحضرت نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی زدو، اس لئے کہ تم میں سے کوئی اگر احد پہلہ جتنا بھی سونا خرچ کر دے تب بھی ان کی ایک مٹھی بھر کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کے نصف کو۔ ”بخاری، مسلم، ترمذی“

مسلم اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جبکہ ابو بکر برقانی نے اس کو شیخین کی شرط پر روایت کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مغفل سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ اللہ میرے صحابہ، ان کو اپنی غرض کا ہدف نہ بناؤ، پس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی ہے، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے بغض کیا، جس نے ان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو وہ بہت ہی جلد اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ ”ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریبہ ہے“

حضرت ابی بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ پر حملے کرتے ہیں۔ ”ابن عدی“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے سرکارِ دو عالم کا ارشاد
 گرامی ہے کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیوں دیتے ہیں تو
 تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے۔ "ترمذی، خطیب"
 حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا جو شخص
 میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہوا مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک ایسے جانور
 کو مسلط کر دے گا جو اس کے گوشت کو نوچتا رہے گا۔ وہ شخص قیامت
 تک اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ "ابن ابی دنیا فی القبور"

انہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السلام نے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لئے میرے صحابہ کو پسند کیا پھر
 ان میں سے کچھ کو میرے وزراء، مددگار و معاون اور رشتے دار بنایا۔ پس جو
 شخص ان کو گالیاں دے گا اس پر اللہ کی، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔
 اللہ تعالیٰ اس کے کسی خرچ اور صل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ "طبرانی، حاکم"

فصل :- مسلمانوں کا ذکر خیر

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم نے
 فرمایا کہ مسلمان کو گالیاں دینا فسق ہے۔ "مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ"
 ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما
 سے روایت کیا ہے جبکہ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مغفل اور وارقطنی نے
 حضرت ہارون رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے آنحضرت نے فرمایا کہ کوئی
 مسلمان کو گالیاں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک کافر ہوگا۔
 "ترمذی، ابن ماجہ"

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ایک شخص اگر کسی دوسرے کو فاسق اور کافر کہتا ہے اگر دوسرا شخص ایسا نہیں تو پھر پہلا ہی یعنی خود ہی کافر و فاسق ہوگا۔ ”بخاری“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل ہے کہ طعنہ زنی کرنے والا، لعنت کرنے والا، بدکلامی کرنے والا اور بد زبان مومن ہی نہیں ہے۔
 ”ترمذی، بیہقی، احمد، بخاری فی التدریج، مستدرک حاکم، صحیح ابن ماجہ،“

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب بندہ کسی شے پر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، مگر اس کے لئے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے تو وہاں کے دروازے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں، یعنی زمین و آسمان میں اس کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ جب اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تو اس شخص کی جانب رجوع کرتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی۔ اگر وہ اس کا یعنی لعنت کا اہل ہے تو ٹھیک ورنہ وہ لعنت بھیجنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ”ابوداؤد“

فصل :- مردوں کو گالیاں دینے کی ممانعت

حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو تم گالیاں نہ دو اس لئے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ”بخاری“

فصل :- باہمی حقیقت کشی کے ذکر کی ممانعت

بہت سے محققین نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کی باہمی ممانعتوں اور حقیقتوں

کو بیان کرنا حرام ہے اس لئے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ بعض صحابہ سے بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ اس کی موید ایک اور حدیث مرفوعہ میں ہے کہ کوئی شخص کسی قسم کی شکایت میرے صحابہ سے متعلق مجھے نہ کرے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تم میں سے کسی کی طرف جاؤں تو اس کی طرف سے میرا سینہ پاک ہو۔ "ابوداؤد بن مسعود"

امام ابواللیث فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آپس کی لڑائیوں سے متعلق حضرت ابراہیم نخعی سے سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ خون ہیں کہ جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے۔ تو کیا اب ہم اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو آلودہ کریں۔ "ابن ماجہ"

اہلسنت نے تو محض منظرانہ ان واقعات و حوادث کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ اہل بدعت نے اس سلسلے میں بہت سے جھوٹ اور افسانے گھڑ لئے تھے اور بعض متکلمین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ صحابہ کی باہمی خانہ جنگی کی تمام روایات محض جھوٹ ہیں۔ اگرچہ یہ قول بہت اچھا ہے مگر بعض مناقشات تو اترے سے ثابت ہیں۔ اہلسنت و جماعت کا اجماع ہے کہ جو مشاہرات ثابت ہیں ان کی تاویل کر کے عوام الناس کو دسائس سے بچایا جائے اور جو تاویل کے قابل نہیں ہیں وہ مردود ہیں اس لئے کہ صحابہ کرام کی فضیلت اسن سیرت اللہ حق کی اتباع و نصوص قطعہ سے ثابت ہے اور اسی پر اہل حق متفق ہیں، پھر روایات امار کس طرح اس کی معارض ہو سکتی ہیں اور روایات بھی متعین کا ذمہ رانہیوں کی؟

نہیں بلکہ ان کی روایتیں اس کا شکر و قصہ

ہیں اور ان کی روایتیں اس کا شکر و قصہ

تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ عبداللہ ابن ابی سرح کو مصر سے معزول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو حاکم بنا دیں گے؟ تو آپ نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ اس پر آپ کے وزیر مروان بن حکم نے عبداللہ کو خط لکھا کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس پہنچیں تو ان کو قتل کر دینا۔ راستے میں مصریوں کی قاصد سے ملاقات ہو جاتی ہے تو انہوں نے قاصد سے وہ خط لے لیا، کھول کر دیکھا تو وہ خط حضرت امیر المومنین عثمان غنی کی طرف سے تھا اور اس پر آپ کی مہر بھی تھی۔ طرہ یہ کہ خط لے جانے والا آپ کا غلام تھا اور آپ ہی کی ادٹنی پر سوار تھا۔ وہ مصری وہیں سے واپس لوٹ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا حاضرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ ان سے لڑا نہ جائے۔ آپ کا مقصود مسلمانوں کو خون ناحق سے بچانا اور عثمانؓ کی شہادت تھی جس کی بشارت آپ کو زبان رسالت سے مل چکی تھی۔ چنانچہ ان مصریوں نے آپ کو قتل کر دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمان کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی اس سلسلے میں کچھ وقت کے طلبگار تھے تاکہ فتنہ بھی کھڑا نہ ہو اور ان کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے۔ بس یہی سے بات بڑھ گئی اور اختلاف پیدا ہو گیا اور جو کچھ من جانب اللہ تقدیر میں وہ تو لا محالہ ہو کر رہتا۔ پس حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کی بعروہ کے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی۔ جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر شہید ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ

کی سوارسی کی کوچیں بھی کاٹ دی گئیں۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ
 عمل معروف ہوا۔ غرض کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہ عزت و اکرام
 واپس مدینے شریف بھیجا دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفین کے مقام پر دریا ٹے فرات کے کنارے اسی
 مسئلے پر جنگ ہوئی اور یہ جنگ جاری رہی۔ پھر ایک معاہدہ طے پایا جو کہ
 صلح کی مانند تھا۔ « اس سلسلے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے »

فصل :- مجتہد کی خطا پر عذر مواخذہ

حدیث مرفوع صحیح السنہ سے ثابت ہے کہ جب حاکم اپنے اجتہاد سے
 کوئی فیصلہ کرے تو اگر وہ فیصلہ درست ہے تو اس کے لئے دوہرا اجر
 ہے اور اگر اجتہاد ہی فیصلہ یعنی برخطا ہے تو اس کے لئے ایک نیکی ہے۔
 اس حدیث کو بخاری، مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، پھر بخاری، احمد، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ
 نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے بھی روایت کیا ہے نیز اسی روایت
 کو بخاری نے ابو سلمہ سے بھی نقل کی ہے۔

اجتہاد و عیب پر دو اجر ہیں اور صرف اجتہاد پر ایک نیکی ہے۔ چاروں
 صحابہ علیہم السلام اس جنگ میں مجتہد تھے مگر ان کے اجتہاد میں خطا تھی
 کہ حضرت علی عیب کی اجتہاد تھے۔ اصول میں یہ بات مقرر شدہ ہے
 کہ اگر کوئی عیب سے اجتناب کرے اور اس میں خطا ہو جائے تو اس کے لئے دو اجر
 ہیں اور اگر کوئی عیب سے اجتناب نہ کرے اور اس میں خطا ہو جائے تو اس کے لئے
 ایک نیکی ہے۔ اس سلسلے میں مجتہد پر
 اگر کوئی عیب سے اجتناب کرے اور اس میں خطا ہو جائے تو اس کے لئے دو اجر
 ہیں اور اگر کوئی عیب سے اجتناب نہ کرے اور اس میں خطا ہو جائے تو اس کے لئے
 ایک نیکی ہے۔ اس سلسلے میں مجتہد پر

حضرت ابن سعد حضرت ابی میسرہ عمرو بن شمر جیل سے روایت کرتے ہیں۔ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں اور اس میں بہترین گنبد بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ یہ گنبد، کلاخ اور خوشب کے ہیں اور یہ دونوں حضرت امیر معاویہ کی کمان میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ عمار یا سرا اور ان کے دوست کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کے بعض نے تو بعض کو قتل کیا تھا۔ کہا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اس کو وسیع المغفرت پایا۔ میں نے کہا کہ اہل نہر یعنی خوارج کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کہا کہ وہ سختی میں ہیں۔

فصل :- فضائل عائشہ رضی اللہ عنہا

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ شریک کو دیگر کھانوں پر فضیلت ہے۔ ”بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ، ابن جریر“ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی حدیث میں مشکل درپیش آتی تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کرتے، ہم نے ان کو عالم بالحدیث پایا ہے۔ ”ترمذی نے کہا کہ یہ روایت حسن صحیح غریب ہے“

حضرت ام ہانی ہمشیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عائشہ! غنیمت ہے کہ تم سے زبور علم اور قرآن ہوں گے۔ ”مسند امام اعظم ابو حنیفہ“

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اے عائشہ یہ بات میرے لئے موت کو آسان کر دیتی ہے کہ میں نے تجھے جنت میں اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ موت کو عجب پر آسان کر دیا گیا ہے اس لیے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں دیکھا ہے۔ "مسند امام اعظم ابو حنیفہ"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اے عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا تجھ پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ "بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے خواب میں تین راتوں تک دکھائی گئی، فرشتہ تجھے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لاتا تھا۔ پھر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ پس میں نے تیرے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو واقعی تو وہی تھی۔ میں نے کہا اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو انشاء اللہ عند اللہ ویسا ہی ہوگا۔ "بخاری، مسلم"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن تحائف کے آنے پر لوگ حیران رہتے تھے۔ تحائف کی ترسیل کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ازواجِ مطہرات کی دو قسمیں تھیں۔ ایک گروہ میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودہ رضوان اللہ علیہنَّ اجمعین اور دوسرے گروہ میں حضرت ام سلمہ و دیگر ازواجِ نبوی تھیں۔

رضوان اللہ تعالیٰ علیہنَّ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم سے بات کریں کہ آپ اپنے صحابہ کو فرمائیں اگر تم مجھے ہدایا بھیجا پتہ
 ہو تو میں جہاں بھی ہوں وہیں بھیجا کرو۔ آنحضرت نے ام سلمہ سے فرمایا کہ مجھے
 عائشہ کے بارے میں ایذا نہ دو اس لئے کہ میرے پاس وحی عائشہ رضی اللہ عنہا کے
 لحاف کے بغیر کسی اور لحاف میں نہیں آتی۔ ام سلمہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے
 توبہ کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو ایذا دی، پھر گروہ ام سلمہ نے حضرت
 فاطمہ الزہرا کو بلایا اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔
 آنحضرت نے فرمایا۔ اے فاطمہ بیٹی! کیا تو وہ پسند نہیں کرتی جس کو میں پسند
 کرتا ہوں۔ عرض کیا۔ اباجان! آپ کی پسند ہی میری پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔
 کہ میری پسند بھی بات ہے۔ ”بخاری، مسلم، نسائی“

تنبیہ :- شاید کسی کو یہ گمان ہو کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 عنہا کے فضائل میں ان کی اپنی روایت سود مند نہیں ہیں تو یہ ان کا گمان فاسد
 ہے اس لیے کہ پہلی حدیث عظیم منقبت ہے اور تمام روایات کی موثق، مصحح اور
 مصدق ہے۔

فصل :- مناقب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ

مؤلف مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ وہ طلحہ بن عبد اللہ بن کنینہ ابی محمد القرشی
 ہے قدیم الاسلام اور سوانے جنگ بدر کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ بدر میں
 اس نے شریک نہ ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت سعید بن زید
 کے ساتھ قریش کے قافلے کی کھوج لگانے کے لئے بھیج دیا تھا۔ جنگ احد میں
 حضرت طلحہ کو چوبیس زخم آئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ پچتر زخم آئے تھے۔ بعض کہتے
 ہیں کہ تیروں، مجالوں اور نیزوں کے چوبتر زخم پچتر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا

ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ وہ شخص جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ شخص ہر ایسے شخص کو چلتا پھرتا دیکھے جس نے "راہ جہاد میں قربان ہونے کی" اپنی نذر پوری کر لی ہو تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کی طرف دیکھے۔

ترمذی اور امام حاکم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ کسی شہید کو زمین پر چہل قدمی کرتے دیکھے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔

ابن ماجہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ پر چلتے پھرتے شہید ہیں۔

ترمذی اور ابن ماجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور ابن عساکر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ طلحہ کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی نذر پوری کر لی۔ امام ترمذی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک حسن غریب روایت نقل کرتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک جاہل ناواقف اعرابی بدو سے کہا کہ تم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھو کہ "جن لوگوں نے اپنی نذر پوری کر لی ہے" ان سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام نے بدو سے اس لئے دریافت کرایا کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ادب و توقیر اور ہیبت کی وجہ سے یہ بات پوچھنے کی اپنے اندر ہمت نہیں رکھتے تھے۔ غرضیکہ اس اعرابی نے پوچھا مگر حضور اکرم نے اعراض فرمایا۔ اس نے پھر پوچھا تو پھر بھی آپ نے توجہ نہ دی۔ اس نے تیسری مرتبہ دریافت کیا کہ آپ نے پھر جواب نہ دیا۔ اتنے میں میں "طلحہ" مسجذ کے دروازے سے

ظاہر ہوا۔ میں سبز لباس میں ملبوس تھا۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جو عن قضا نحبہ کے متعلق پوچھتا تھا۔ اعرابی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! وہ میں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص "طلحہ" ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی نذر پوری کر چکے ہیں۔

ترمدی اور حاکم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ سنا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما جنت میں میرے پروسی ہیں۔

امام بخاری قیس بن حازم سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ مشلول ہاتھ دیکھا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے جنگ احد کے دن شل ہو گیا تھا۔

امام بیہقی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں باقی لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تنہا چھوڑ گئے تھے۔ صرف گیارہ انصاری اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس رہ گئے تھے۔ آپ ان کی ہمراہی میں پہاڑ پر چڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے گھیر لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ کہ ہے کوئی یہاں جو ان کا مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا طلحہ تم مشہور و پھر ایک انصاری

نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں، اور وہ ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ اور حضور اکرم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دوبارہ پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اور انصاری شہید ہو گئے تو کہہ رہے پھر چھپا لیا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔

آپ نے فرمایا۔ تم ٹھہرو۔ اتنے میں ایک اور انصاری نے کہا۔ حضور میں حاضر ہوں۔ وہ لڑنے لگے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اوپر چڑھنے لگے۔ مشرکین اس انصاری کو شہید کرنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے۔

پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ یہی ارشاد فرماتے اور حضرت طلحہ ہر دفعہ اپنے آپ کو پیش کرتے حضور علیہ السلام فرماتے۔ تم ٹھہرو۔ پھر کوئی انصاری لڑنے کی اجازت طلب کرتا تو آپ اس کو اجازت دے دیتے اور وہ بھی پہلے والے کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے یہاں تک کہ حضور اکرم کے ساتھ سوائے طلحہ کے باقی کوئی نہ رہا یعنی سب شہید ہو گئے۔ مشرکین نے حضور علیہ السلام اور حضرت طلحہ کو گھیرے میں لے لیا۔ پس حضور اکرم نے فرمایا کہ ان کے مقابلے کے لئے کون ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو پھر انہوں نے ایسی جنگ کی کہ جس طرح ان سے پہلے گیارہ انصاریوں نے کی تھی۔ اسی اتنا ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو کہا: جسٹس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلحہ اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا یا اللہ کے نام کو یاد کرتا تو اللہ کے فرشتے تجھے اٹھا کر لے جاتے اور لوگ تجھے آسمان کی فضا میں دیکھتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اپنے صحابہ کرام کے مجمع کے پاس پہنچ گئے۔

شیخ نورالحق علیہ الرحمۃ نے صحیح بخاری کے ترجمہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت طلحہ کو جنگ جمل میں شہیدوں میں دیکھا تو اتنا روئے کہ آپ کی دائرہ شریف تر ہو گئی تھی۔ پھر فرمایا کہ اسے طلحہ میں امید کرتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں شمار ہو گا جن کے متعلق رب العزت نے فرمایا ہے: اور ہم ان کے دلوں میں موجود کردہ رتوں کو نکل دیں گے اور وہ جہاں بن کر ایک

دوسرے کے سامنے خوش و خرم بیٹھے ہوں گے۔“

فصل :- محمد بن طلحہ کے مناقب میں

کثرت سجد کے باعث آپ کا لقب سجاد مشہور تھا۔ آپ حضور علیہ السلام کے عہد میں تولد ہوئے۔ آپ کا نام ”محمد“ تھا اور کنیت ابوسلیمان تھی۔ الاستیعاب میں ہے کہ آپ نے جنگ جمل میں شہادت پائی تھی حضرت طلحہ نے ان کو جنگ کے لئے آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی اثنا میں ان کی زردہ ان کے پاؤں میں پھنس گئی اور اسی پر کھڑے ہو گئے۔ جب کوئی آدمی ان پر حملہ کرتا تو وہ اُسے کہتے کہ میں تجھے حصار کی قسم دیتا ہوں، آخر کار اسود غلی نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا اور پھر یہ شعر پڑھے

واشاعت قواربایاتہ، قلیل الاذی فیما یروی العین مسلم
خوقتہ بالرمع حبیب قمیمہ، فخصو لیا لیدین ولفیہ
علی غیر شیء انہ لیس تابعا علیا و لعی یتبع الحق ینام
یذکر فی حصار و الرمع شاجر فہم لا تلاحقوا قبل التقدیر
جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو شہیدوں میں دیکھا تو فرمایا کہ یہ بڑا
خوب رو جوان تھا۔ پھر غمزہ ہو کر بیٹھ گئے۔ دارقطنی کی روایت میں ہے کہ جب
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شہید کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یہ سجاد ہے جو اپنے
لب کی راحت میں شہید ہوا۔

فصل :- حضرت زین العابدین کے مناقب میں
حضرت زین العابدین کے مناقب میں

مؤلف مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ زبیر بن عوام قرشی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ آپ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ آپ سولہ برس کی عمر میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ قدیم الاسلام تھے۔ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے آپ کو دھوئیں کی تکلیف دی گئی مگر وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے اور تمام غزوات میں شامل رہے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے راہ جہاد میں تلوار کو نیا م سے باہر نکالا۔ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ احد میں بھی ثابت قدم رہے۔ بصرہ میں صفوان کے مقام پر ان کو عمرو بن جرموز نے شہید کیا۔ بوقت شہادت آپ کی عمر چونسٹھ برس تھی۔ پہلے وادی سباغ میں انہیں دفن کیا گیا۔ بعد ازاں وہاں سے نکال کر بصرہ میں دفن کئے گئے اور وہیں پر آپ کی قبر مشہور ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت زبیر جنگ سے لوٹ کر نماز ادا فرما رہے تھے کہ شہید کر دیئے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی تلوار کو دیکھا اور فرمایا کہ اس تلوار نے چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدافعت کی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ ابن صفیہ "زبیر" کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دینا۔ اس کے جواب میں جرموز نے کہا کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں تب بھی جہنمی اور اگر آپ کی حمایت میں لڑیں تب بھی جہنمی؟ پھر اسی نعتہ میں جرموز نے خودکشی کر لی۔

بخاری اور ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔

شیخین نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے حضور اکرم نے

ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے جو مجھے جنگ احزاب کے موقع پر قوم کی "کفار و شرک" خبر لا کر دے۔ حضرت زبیر نے عرض کیا حضور میں لاؤں گا۔ ۱۰

مستدرک حاکم کی روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے جنگ خندق میں فرمایا کہ کفار کی خبر کون لے کر دے گا تو حضرت زبیر کھڑے ہو گئے۔ ان حضور نے پھر حکم فرمایا تو زبیر بھی پھر کھڑے ہو گئے۔ ۱۱

شیخین اور ترمذی نے حضرت زبیر سے روایت کیا ہے حضور اکرم نے فرمایا کون ہے جو بنی قریظہ کے ہاں جائے اور ان کی خبر لائے تو میں "زبیر" چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو حضور علیہ السلام نے میرے والدین کو جمع کیا اور فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔

بخاری نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کافروں پر حملہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم بھی آپ کی ہمت ہی میں ان پر حملہ کریں۔ چنانچہ آپ نے حملہ کیا تو آپ کی پشت پر تلوار کی دو ضربیں لگیں اور ان دونوں کے درمیان وہ ضرب تھی جو آپ کو جنگ بدر میں لگی تھی۔ پس میں ان ضربات "کے گڑھوں" میں انگلیاں ڈال کر کھینکتا تھا۔

فائدہ :- شیخ ترمذی تو اللہ مرقدہ صحیح بخاری کے ترجمہ میں فرماتے

ہیں یہ سب تک غلام کا ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک رہے کہ وہ اس وقت تک اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ اس وقت تک کہ وہ اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ اس وقت تک کہ وہ اس لڑائی میں شہید ہوئے۔

اس وقت تک کہ وہ اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ اس وقت تک کہ وہ اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ اس وقت تک کہ وہ اس لڑائی میں شہید ہوئے۔

فصل :- حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں

آگاہ ہو کہ حضور اکرم کے صحابہ کرام کی تعداد سابقہ انبیاء کرام کی تعداد کے موافق ایک لاکھ چوبیس ہزار دکم و بیش) ہے مگر جن کے فضائل میں احادیث طیب اللسان ہیں۔ وہ گنتی کے چند حضرات ہیں اور باقیوں کی فضیلت میں صرف صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہے۔ اس لئے کہ ”صحبت رسول“ کے فضائل عظیمہ کے ترتب میں قرآن و حدیث ناطق ہے۔ پس اگر کسی صحابی کے فضائل میں احادیث نہ ہوں یا کم آئی ہوں تو یہ ان کی فضیلت و عظمت میں کمی کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لئے ہم یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں آپ کے شرف و مقام کا اضافہ ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اے اللہ معاویہ **اولاً** کو حساب و کتاب کی تعلیم سے سرفراز فرما اور عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عریض بن ساریہ سے روایت کیا ہے۔ مسند امام احمد بہت بڑی اعتماد والی کتاب ہے۔ حافظ ثقف جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مسند احمد کی جملہ مرویات مقبول ہیں اور جو ضعیف ہیں وہ بھی حسن کے قریب ہیں۔ نیز امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام احمد کا قول ہے کہ اگر مسلمان کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ میری مسند کی طرف رجوع کریں۔ اگر تم اس میں پاؤ تو وہ حسن ہے ورنہ حجت نہیں اور بعض نے تو مسند احمد کی تمام روایات کو صحیح پر اطلاق کیا ہے۔ نیز ابن جوزی نے جو مسند احمد کی بعض روایات کو وضعی کہا ہے۔ وہ اس کی اپنی خطا ہے۔ کیونکہ تعصب اور افراط ہجرت کی سرچخت ہے۔ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے اور یہ کتاب سنن اربعہ سے

احسن ہے۔

ثانیاً حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہ صحابی مدنی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں فرمایا۔ اے اللہ ان کو ہدایت دہندہ اور ہدایت یافتہ بنا اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ امام ترمذی کی کتاب "سنن ترمذی" جلیل القدر کتاب ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام ہر وی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کتاب صحیحین "بخاری و مسلم" سے زیادہ نفع مند ہے۔ اس لئے کہ اس میں جس طرح مذاہب اور موجودہ استدلال کا ذکر ہے وہ صحیحین میں نہیں ہے۔ تیسرا حکم اور خطیب نے ترمذی کی جملہ مرویات کو مطلقاً صحیح کہا ہے۔ امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو علمائے حجاز، عراق اور خراسان کی خدمت میں پیش کیا ہے اور جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہوگی گویا کہ وہاں خود نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کلام فرما رہے ہیں۔

ثالثاً ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ کیا آپ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہہ کر پناہ پا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو صرف ایک دتر پڑھتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ فقیر ہیں۔ "بخاری"

فقیر کہتے ہیں کہ فقیر سے مراد مجتہد ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کیا آپ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہہ کر پناہ پا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو صرف ایک دتر پڑھتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ فقیر ہیں۔ "بخاری"

صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ ”انتہی“

حضرت ابن عباس کا شمار فضلاء صحابہ میں تھا۔ آپ کے علم کی وسعت کے پیش نظر آپ کو بحر العلوم، حبر امت اور ترجمان القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم نے ان کے لئے علم و حکمت اور تفسیر قرآن بالتاویل کی دعا فرمائی تھی جو کہ قبول ہوئی۔ آپ کا شمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خواص میں تھا۔ آپ دشمنان علی کے شدید نکیر تھے۔ حضرت نے آپ کو خوارج حروریہ کے پاس مناظرے کے لئے بھیجا تھا۔ آپ نے مناظرہ کیا اور خارجیوں کو لاجواب کر دیا۔ جب حضرت ابن عباس جیسے ذی علم شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی گواہی دیں اور اپنے غلام کو ان پر نکیر کرنے سے منع فرمائیں اور دلیل یہ دیں کہ وہ صحابی رسول ہیں تو اسی سے حضرت معاویہ کے توفیق و علو کا پتہ چل جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حبر امت حضرت ابن عباس کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کے لئے ہی سب سے بڑی شہادت ہے۔

رابعاً حضرت معاویہ کاتب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اپنی کتاب ”خلاصۃ السیر“ میں امام مفتی حرین احمد بن عبد اللہ بن محمد طبری نے ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ کاتب تھے۔ چاروں خلفاء کے علاوہ عامر بن عبید اللہ بن ارقم، اُبی ابن کعب، ثابت بن قیس بن شماس، خالد بن سعید بن عامر، حنظلہ بن ربیع اسلمی، زید بن ثابت، معاویہ بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ان میں سے حضرت معاویہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کو کتابت وحی کے لئے خاص کیا گیا تھا۔ یعنی دوسروں کی بہ نسبت یہ کل وقتی کاتب تھے۔ ”انتہی“

تیرہ جو کہا گیا ہے کہ کتابت وحی ان کے لئے ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بن محمد قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں اس قول کو صریح مردود کہا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان پہاڑ ہیں۔ جنگ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔

خامساً شیخ علی ہرودی، "ملا علی قادری" شرح مشکوٰۃ میں ذکر کرتے

ہیں کہ امام عبداللہ ابن مبارک سے دریافت کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہمرکابی میں جنگ کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو عباہ داخل ہوا تھا وہ بھی عمرو بن عبدالعزیز سے کئی درجہ افضل ہے۔ اس منقبت پر غور کرو۔ اس کلمہ کی تفصیلت تو تجھے اس وقت معلوم ہوگی جب تجھے عبداللہ بن مبارک اور عمر بن عبدالعزیز کی تفصیلت معلوم ہو جائے گی جو کہ بے شمار ہیں اور محدثین کی مبسوط کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو امام الہدیٰ اور بانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ محدثین اور فقہا امان کے قول کو عظیم اور محبت مانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کی زیارت کرتے تھے۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حدیث رسول کو طبع کرنے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے بھی افضل ہیں تو ان کے مقام و مرتبہ میں تجھے کیا گمان ہو سکتا ہے۔

چھٹا بخاری اور مسلم "حضرت معاویہ" سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ حضرت ثقفی، مضابط اور صدوق راویوں کی

حدیثیں روایت کرتے ہیں اور مروان بن حکم نے کتاب

روایات بھی حاصل کرتا ہے۔

سابعاً صحابہ کرام اور محدثین عظام حضرت معاویہ کی طرح کرتے ہیں حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور

واقعات اختلافیہ کے تمام لوگوں سے زیادہ واقف ہیں اور ان کی تصدیق و توثیق ہے۔ امام قسطنطینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مناقب کا مجموعہ ہیں۔ اسی طرح شرح مسلم میں ہے کہ آپ کا شمار عدول فضلاء اور صحابہ اخیار میں ہے۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ آپ نہایت بزرگوار، سخی، سیاست دان، صاحب عقل اور سیادت کاملہ کے حقدار، صاحب الرائے تھے۔ گویا کہ حکومت کرنے کے لئے ہی پیدا ہوئے تھے۔ محدثین کرام ان کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں جیسا کہ دیگر صحابہ کے نام کے بعد لکھتے ہیں بلا تفریق۔ جیسا کہ بروایت بخاری حضرت ابن عباس کا قول گزر چکا ہے۔

ابن اثیر جزیری کے نہایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت معاویہ سے زیادہ لائق سیادت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر فاروق کو بھی نہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر ان سے بہتر تھے لیکن سیادت کے معاملے میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی آگے تھے۔ حضرت ابن عمر کے قول کی توجیح اس طرح کی گئی ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ از حد سخی اور مال خرچ کرنے میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ واقعی انداز حکمرانی میں ان سے بڑھ کر تھے۔

قاضی عیاض ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے معالی بن عمران سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں تو وہ غصے میں آگے اور

فرمانے لگے کہ حضور اکرم کے صحابہ کرام کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول مقبول ہیں۔ وہ آپ کے برادر نسبتی ہیں، کاتب ہیں اور سب سے بڑھ کر وحی الہی کے امین ہیں۔

ثامناً حضرت امیر معاویہ کا کثیر احادیث کا روایت کرنا۔ امام ذہبی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت ام حبیبہ رضوان اللہ علیہم سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ نیز اپنے تقدم کے باوجود حضرت ابوذر نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس، حضرت ابوسعید، حضرت جریر رضی اللہ عنہم کے علاوہ ایک جماعت صحابہ نے ان سے روایت کی ہے، پھر "تابعین میں سے" حضرت جبیر، ابو ادریس، خولانی، سعید بن مسیب، خالد بن معدان، ابو صالح سمان، سعید، ہمام بن منبہ کے علاوہ کثیر خلق نے بھی آپ سے روایت کی ہے۔ "انتہی"۔

بخاری نے اپنی صحیح میں "حضرت معاویہ" سے آٹھ احادیث روایت کی ہیں۔ ہم ان میں سے چند احادیث یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ جن سے نہ صرف حضرت امیر معاویہ کا شرف واضح ہو جائے گا بلکہ علماء کے دلوں میں آپ کی محبت بھی لڑو تڑو ہوگی۔

امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے حضرت معاویہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ نے اپنے دینوں میں کفر کے اور عیلت "اسلامیہ" تہتر فرقوں میں سے کسی ایک کو اپنا دین قرار دیا ہے۔ وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ سب اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔

اس طرح پھیل جائیں گی جس طرح کتے کا زہر کسی شخص میں سرایت کر جاتا ہے
کوئی رگ در لیشہ اور جوڑا ایسا نہیں رہتا کہ جس میں زہر نہ پہنچے۔

بیہقی، ابو داؤد نے حضرت معاویہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تم
عورتوں کی اتباع کرو گے تو بگڑ جاؤ گے۔

اما احمد، نسائی اور حاکم نے حضرت معاویہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔
حضور اکرم نے فرمایا۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے، مگر جو
شخص مشرک ہو کر مرے یا کسی مومن کو عمدتاً قتل کرے، اس کی مغفرت
نہیں ہوگی۔

ابو عیسیٰ اور طبرانی نے حضرت معاویہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے حضور
علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد کچھ آئمہ ہوں گے، وہ جو کہیں گے
ان کی بات رو نہیں کی جائے گی۔ وہ جہنم میں ایسے گھسیں گے جیسے کہ بند
گھسیں گے۔

ترمذی نے حضرت معاویہ سے مرفوعاً حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد
نقل کیا ہے کہ جو شخص شراب پیے پس اس کو کوڑے مارو، حتیٰ کہ کہ وہ چوتھی
مرتبہ پیے تو پھر اس کو قتل کر دو۔

ابو داؤد نے حضرت معاویہ سے مرفوعاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ ارشاد روایت کیا ہے کہ جو شراب پیں تو انہیں کوڑے مارو، پھر پیں تو
پھر مارو، پھر پیں تو پھر مارو، پھر بھی پیں تو انہیں قتل کر دو۔ قتل کرنے
حاکم یا تو تہدید ہے یا منسوخ ہے۔

ابو داؤد اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

سے بھی حدیث معاویہ کی مثل روایت کی ہے۔

بخاری نے حضرت ابو امامہ بن سہل سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا اور انکا لیکہ وہ منبر پر جلوہ افروز تھے۔ مؤذن نے اذان دی اور کہا: اللہ اکبر، اللہ اکبر حضرت معاویہ نے بھی کہا: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت معاویہ اور میں نے بھی کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا: اشہد ان محمداً رسول اللہ۔ تو حضرت معاویہ نے بھی کہا: اشہد ان محمداً رسول اللہ۔ پس جب اذان پوری ہو گئی تو حضرت معاویہ نے کہا کہ لوگو! میں نے مؤذن کی اذان کے وقت اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا۔ آپ بھی یہی کلمات فرماتے جو کہ تم نے مجھ سے سنے ہیں۔

امام احمد حضرت علقمہ بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے نزدیک تھا۔ آپ وہجا دہراتے تھے تو مؤذن کہتا تھا مگر جب مؤذن نے ہی الصلوٰۃ کہا تو آپ نے فرمایا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن نے کہا: ہی علی الفلاح تو آپ نے کہا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مجازاً وہی کہا جو کہ مؤذن نے کہا پھر فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔

ابو امامہ بن سہل سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منبر پر اذان پوری ہو گئی تو حضرت معاویہ نے کہا: اشہد ان محمداً رسول اللہ۔ آپ نے کہا: اشہد ان محمداً رسول اللہ۔

پہرے دار کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے فرمایا۔ اے اہل مدینہ کہاں ہیں تمہارے
 علماء؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ایسے بالوں سے
 منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے نبی اسرائیل اس وقت تباہ ہوئے تھے
 جس وقت وہ ایسے بالوں کو پکڑتے "قبول" تھے۔

شیخین اور نسائی نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے۔
 وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے اور ہمیں مخاطب کر
 کے بالوں کا ایک چونڈا نکالا اور فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا تھا کہ یہودیوں
 کے علاوہ بھی کوئی اس کو بناتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
 ایسے بالوں کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے ان کا نام "جھوٹ" رکھا تھا
 امام نسائی حضرت سعید مقبری سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے
 ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ کو منبر پر دیکھا اور ان کے ہاتھ میں عورتوں
 کے بالوں کا ایک گچھا تھا۔ فرمایا کہ مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ
 ایسے بال استعمال کرتی ہیں۔ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ فرماتے
 سنا کہ وہ عورتیں جو اپنے سر میں ایسے بانوں کا اٹناڈ کرتی ہیں جبکہ یہ غض
 جھوٹ ہے جس کو وہ پھیلا رہی ہیں۔

طبرانی نے حضرت معاویہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق حضرت عمر کی زبان اور دل میں متحقق کر
 دیا ہے۔

ابوداؤد میں حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے مخالف میں ڈالنے والی باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے۔
 ابوداؤد میں روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں

کے سامنے وضو فرمایا جیسا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وضو کرتے دیکھا تھا۔ جب سر کے مسح تک پہنچے تو پانی کا چلو بھر کر اٹھے ہاتھ پر ڈالا پھر اس کو وسط سر تک لے گئے یہاں تک کہ پانی کے قطرے گرنے لگے یا گرنے کے قریب تھے۔ پھر پیشانی سے گدی تک اور گدی سے پیشانی تک مسح کیا۔

ابوداؤد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے حضور علیہ السلام فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں مجھ سے آگے نہ بڑھا کر، رکوع اور سجدے میں جتنی دیر میں تم سے پہلے چلا جاتا ہوں تو رکعت کے لئے اٹھتے وقت اتنا حصہ تم پالیتے ہو بیشک میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا ہے۔

ابونعیم نے حضرت معاویہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص بڑے عل کرتا تھا اور ناحق ظلم کرتے ہوئے ستانوں آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ پس وہ شخص نکلا اور دیرانیا میں ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے ستانوں سے افراد کو ناحق غلاماً قتل کیا ہو کیا اس کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ راہب نے کہا کہ نہیں تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے راہب کے پاس گیا اور اس کو بھی اسی طرح کہا۔ دوسرے راہب نے بھی وہی کہا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ تیسرے راہب کے پاس پہنچا اور اس سے بھی وہی کچھ دریافت کیا۔ پھر وہ چوتھے راہب کے پاس گیا اور اس کو بھی وہی کہا۔ پھر وہ پانچویں راہب کے پاس گیا اور اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔

ابوداؤد میں ہے کہ ایک شخص

نے برائی کا کوئی عمل نہیں چھوڑا اور اس نے ظلماً، ناحق سو قتل بھی کئے
 ہیں کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے اس سے کہا۔ قسم بخدا!
 اگر میں تجھ سے یہ کہوں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں
 فرماتا تو یہ صریح جھوٹ ہے۔ یہاں دیر "علاقہ" میں عبادت گزار قوم
 ہے۔ تم وہاں جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، پس
 وہ وہاں تائب ہو کر نکلا ابھی اس نے کچھ راستہ ہی طے کیا تھا کہ اللہ نے
 فرشتہ بھیج کر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر اس کے پاس عذاب اور رحمت
 کے فرشتے آگئے اور اس کے معاملے میں جھگڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان
 کے پاس ایک اور فرشتے کو بھیجا جس نے ان دونوں فرشتوں سے کہا کہ دونوں
 گاؤں کے درمیانی فاصلے کو ناپ لو۔ جو قریب ہوگا اس کا شمار اسی گاؤں
 والوں میں ہوگا۔ چنانچہ ناپا گیا تو وہ عبادت گزاروں اور توبہ تلا کرنے
 والوں کے گاؤں کے چند انگلی برابر قریب نکلا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو
 بخش دیا۔

شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں ہم نے بطریق ابو داؤد، عبداللہ
 بن علام سے اور انہوں نے مغیرہ بن قرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں
 کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن مسجد میں باب حوض پر لوگوں
 کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! ہم نے فلاں فلاں دن چاند
 دیکھا اور تم پر روزہ رکھنے میں سبقت لے گیا ہوں۔ پس جو شخص چھانکتا
 ہے تو وہ ایسا کرے۔ حضرت مالک بن سیرہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور
 کہا۔ اے معاویہ کیا ایسی کوئی چیز تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 سنی تھی؟ یا یہ تمہاری اپنی رائے ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھو اور اس کے پہلے
حقتہ کے۔

بخاری نے حمید بن عبدالرحمن سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ
نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد
فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے
دین میں تفرقہ عطا فرماتا ہے اور بیشک میں تو باتنے والا ہوں جبکہ عطا
کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور یہ امت ہمیشہ دین پر قائم رہے گی۔ مخالفین
اس کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ امر الہی آجائے۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت امیر معاویہ سے روایت کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا
کہ میں تو خازن ہوں جس کو بطیب خاطر دوں گا پس اس میں برکت ہوگی
اور جس کو اس کے مانگنے اور طلب کرنے پر دوں گا تو اس کی مثال ایسی ہوگی
کہ جو کھانے مگر پیٹ نہ بھرے۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت امیر معاویہ سے روایت کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سوال کرتے ہوئے
پیٹ نہ جایا کرو۔ قسم بخدا! اگر تم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں
اس کے سوال کے بار بار اصرار پر اس کو کچھ دے دوں تو میرے اس عطیہ
میں اس کے لئے برکت نہیں ہوگی۔

اور اور بسا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی سواری سے اور سونے کے
سے اور اس کے لئے برکت نہیں ہوگی۔ اور

روایت میں ہے جو کہ انہی کتب میں حضرت معاویہ سے مرفوعاً مروی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ تم ریشم اور چیتے پر سواری نہ کرو۔

نسائی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ ان کے پاس اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھے۔ پس کہا کہ کیا تمہیں معلوم
ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ٹکڑا بھر سونے کے پہننے سے بھی منع فرمایا
ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اعلم

ابوداؤد نے حضرت معاویہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اصحاب نبی
علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس چیز سے اور چیتے کی کھال پر سواری سے منع فرمایا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے حج اور عمرہ کے درمیان قرآن سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے کہا۔
کہ یہ تو ہم نہیں جانتے، حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ بھی انہی میں شمار ہے
مگر تم نے بھلا دیا۔

امام مسلم بن یحییٰ کی روایت ان کے چچے سے روایت کرتے ہیں۔ وہ
فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ
مژون آیا اور اس نے آپ کو نماز کے لئے بلایا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں
نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ قیامت کے دن مژونوں
کی گردنیں سب سے لمبی "اونچی" ہوں گی۔

امام مسلم نے حضرت ابوسعید سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ سے
میں لوگوں کے ایک حلقہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ علقہ باندھ کے بیٹھے
ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی صورت

اسی لئے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بخدا اس کے علاوہ بیٹھنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بسے میں نے حلف اس لئے نہیں لیا کہ تم پر کوئی تہمت لگا رہا ہوں بلکہ جن حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ جیسا قرب حاصل تھا ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس نے مجھ سے کم روایت نقل کی ہوں۔ بے شک حضور علیہ السلام صحابہ کی جماعت کے ایک حلقہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم یہاں کس لئے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تم صرف اسی مقصد سے بیٹھے ہو۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے قسم اس لئے نہیں لی کہ تم پر کوئی تہمت ہے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور خبر دی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے روبرو تم پر فخر فرماتا ہے۔

حدیث قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم کے سامنے دھی کو تحریر فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت معاویہ سے فرمایا کہ دو ات ڈال دو، قلم کا قطر مٹھا کر دو، حرف کو سیرھا لکھو، سین کے دائروں کے درمیان فرق رکھو۔ میم کے سرے کو ملا کر لکھو، لفظ اللہ کو خوبصورت لکھو۔ رحمن کو پہنچ کر لکھو اور رحیم کو حسین لکھو۔

یہ روایت صحیح ہے۔ امام ابن ماجہ نے اسے صحیح روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں کس لئے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تم صرف اسی مقصد سے بیٹھے ہو۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے قسم اس لئے نہیں لی کہ تم پر کوئی تہمت ہے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور خبر دی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے روبرو تم پر فخر فرماتا ہے۔

تھے۔ ابن عامر دیکھ کر کھڑے ہو گئے جبکہ ابن زبیر بیٹھے رہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

ابو داؤد اور ترمذی میں عمرو بن مرہ سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے امور مسلمین میں سے کسی شے کا حاکم بنایا ہو اور اس نے ان کی حاجت و ضرورت اور فقر و غلت کے آگے پردہ حائل کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت و غلت اور فقر کے آگے پردہ حائل کر دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت معاویہ نے لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے کے لئے ایک آدمی کا تقرر کر دیا۔

بخاری نے میسرہ بن شعبہ کے کاتب وارد سے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہ نے میسرہ کو لکھا کہ میرے پاس کوئی ایسی حدیث لکھ کر بھیج کہ جس کو تم نے خود حضور علیہ سے سنا ہو تو حضرت میسرہ نے ان کی طرف لکھا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو نماز سے فراغت کے بعد تین بار یہ کلمہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملك وله الحمد وهو کل شیء قدیر۔ پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حیل و حجت، کثرت سوال، تفتیح مال، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے، ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ دگر گور کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ترمذی میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ مجھے اختصار سے کوئی نصیحت فرمائیے۔

فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھا۔ اسلام علیکم امان بعد۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص لوگوں پر تشنگی کر کے اللہ کی رضا کا طلبگار ہوگا تو لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی معادنت کافی ہے اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اس کا وکیل ہوگا۔ والسلام۔

ترمذی اور ابو داؤد نے سلیم بن عامر سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا اور آپ ان کے علاقہ کی جانب محو سفر تھے اس لئے کہ جیسے ہی معاہدے کی میعاد ختم ہو رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ پس ایک شخص جو گھوڑے یا خچر پر سوار تھا آیا اور وہ کہتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ایفائے عہد لازمی ہے جنگ نہ کرو۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت معاویہ نے اس سے دریافت کیا اس معاملے میں تو انہوں نے کہا۔ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہو تو جب تک مدت معاہدہ ختم نہ ہو اس وقت تک مہذبہ توڑے یا پھر ان کے معاہدے کو مسترد کر دے تاکہ عدم معاہدہ سے فریقین برابر آگاہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے جلاوی لوگوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔

حضرت معاویہ کی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کی ایک مثال یہ ہے کہ انہی میں سے کسی نے شفا شریعت میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم سے ملاقات کے لئے سفر کے لئے روانہ ہوئے تو ان سے ان کے لئے دعا پڑھی اور ان سے تشکر کیا۔

ہو کر ملے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور مرغاب نامی علاقہ "جو کہ
ہرورد کے پاس تھا؟ کی زمین ان کو عطا فرمادی۔ یہ عطا و اکرام
صرد، اس لئے تھا کہ حضرت غالب کی صورت حضور اکرم نور مجسم
صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شریفہ کے مشابہ تھی۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو حدیث کی اتباع کا حکم
عاشرا فرماتے اور اس کی مخالفت سے منع فرماتے تھے۔ امام
ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ مدینہ شریف میں
آتے اور یہاں کے فقہاء سے کوئی ایسی چیز سنتے جو سنت رسول کے
مخالف ہوتی تو اہل مدینہ کو جمع کر کے فرماتے کہ کہاں ہیں تمہارے
علماء؟ میں نے تو حضور علیہ السلام کو یوں فرماتے سنا ہے اور اس طرح
کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

بخاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ
نے فرمایا کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو؟ البتہ تحقیق ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو ہم نے ایسی نماز
پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ نے اس نماز سے منع فرمایا ہے یعنی عصر
کے فرضوں کے بعد دو رکعت پڑھنے سے۔

امام الحدیثین امام مسلم حضرت عمرو بن عطا سے روایت کرتے ہیں
کہ نافع بن جبیر نے ان کو سائب کے پاس اس لئے بھیجا کہ میں ان سے
"سائب" سے ایسی بات معلوم کروں جو انہوں نے حضرت معاویہ
کو نماز میں کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، حضور میں
میں نے حضرت معاویہ کے ہمراہ نماز پڑھی تھی۔ جب انہوں نے سلام

پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور نماز پڑھی۔ جب گھر لوٹے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے دوبارہ اس طرح نہ کرنا۔ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ بات نہ کر لو یا اپنی جگہ سے ہٹ نہ جاؤ۔

اما مسلم اپنی صحیح میں حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حدیثیں وہ روایت کرو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں روایت کی گئی ہیں اس لئے کہ حضرت عمر لوگوں کو خونِ الہی سے ڈراتے تھے، شارح مسلم فرماتے ہیں کہ یہ مانعت بغیر تحقیق و تدقیق کے کثرتِ احادیث بیان کرنے سے ہے۔ اس لئے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں اہل کتاب کے مفترعہ علاقوں میں ان کی کتابوں سے نقل و روایت کا رواج شروع ہو گیا تھا اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا اور لوگوں کو عہدِ فاروقی کی مرویات کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایتِ حدیث کے معاملے میں سختی کرتے تھے اور ضبط سے کام لیتے تھے۔ لوگ ان کی ہیبت و سلطنت سے خوفزدہ تھے اور وہ حدیث میں جلد بازی سے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔ احادیث پر شہادت طلب کرتے تھے یہاں تک کہ احادیث خوب مستقر ہو گئیں اور سنن مشہور ہو گئیں۔

بخاری نے محمد بن عبید بن مسلم سے روایت کیا ہے کہ وہ قریش کے ایک وفد کے ہمراہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کو کسی نے روایت پہنچائی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ ایک بادشاہ ہو گا۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث تمہاری ہی ہے اور تمہاری ہی حدیث ہے۔

پھر فرمایا۔ اَمَّا بَعْدُ۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو وہ کتاب اللہ میں ہیں اور نہ اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ وہ تمہارے جاہل لوگ ہیں۔ پس تم ایسی باتوں سے بچو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گی۔ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے آپ نے فرمایا۔ یہ امر قریش میں رہے گا۔ تم میں سے کوئی شخص ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیشانی پر نشان نہ لگا دے یا وہ دین کو قائم نہ کریں۔

کثیر صحابہ کرام کی جماعت نے حضرت معاذیہ کی پیروی کی
حادی عشر | مثلاً حضرت عمرو بن عاص اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ زاہد رضی اللہ عنہ، معاذیہ بن خدیج وغیر ہم رضی اللہ عنہم۔

حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذیہ
اثنا عشر | کو شام کا گورنر بنایا۔ حالانکہ آپ تو حکام و امراء کی صلاح و فساد میں بہت احتیاط فرماتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت معاذیہ کو معزول نہ کیا بلکہ انہیں ان کی گورنری پر بحال رکھا۔

فقہاء کرام حضرت معاذیہ کے اجتہاد کو معتد علیہ سمجھتے تھے۔
ثلثہ عشر | اور دیگر صحابہ کرام کے مذہب کی طرح آپ کا مذہب بھی ذکر کرتے تھے۔ مثلاً آپ کا یہ قول کہ معاذ بن جبل، معاذیہ اور سعید بن مسیب کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے اور حضرت معاذیہ سے ان کا یہ قول کہ ناک معراج ایک دیانے صالح ہے جیسا کہ حضرت یونس عالتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور ان کا یہ قول کہ رکنین یانین کا استلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور حضرت

معاویہ رضی اللہ عنہ سے بطریق صحیح ثابت ہے۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا خلافت حضرت معاویہ
والجہۃ عشر کو سپرد کر دینا باوجود اس کے کہ امام حسن کے ساتھ ایسے

چالیس ہزار اشخاص تھے جنہوں نے موت پر ان سے بیعت کر رکھی تھی۔ اگر
 آپ رضی اللہ عنہ خلافت کے اہل دہوتے تو سبط طیب امام حسن خلافت ان کے
 حوالے کیوں کرتے؟ بلکہ اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح جنگ
 لڑتے۔ عنقریب اس کی تفصیل آئے گی۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امام حسن علیہ السلام سے نہایت
خامستہ عشر ادب سے پیش آتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔

اہل بیت نبوت کے فضائل میں رطب اللسان رہتے۔ یہ سب باتیں مخالفت و
 مخالفت کے باوجود ان کے ایثار حق پر ولالت کرتی ہیں مگر مخالفت و مخالفت
 تو بقدر الہی پیش اپنی تھی۔

امام احمد نے اپنی مسند حضرت معاویہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام
 حضرت امام حسن علیہ السلام کی زبان اور ہونٹ چوستے تھے اور اللہ تعالیٰ ان
 لبوں اور زبان کو بھی عذاب نہ دے گا جن کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 چوما ہو۔ ملا علی قاری ہمدانی شرح مشکوٰۃ میں عبداللہ ابن بریدہ سے روایت
 نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن حضرت معاویہ کے ہاں تشریف لائے تو
 حضرت معاویہ نے کہا یا کریم! آپ کی خدمت میں ایسا عطیہ پیش کروں گا
 کہ آپ اس سے پہلے کسی کو ملا ہوگا اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا۔

حضرت معاویہ نے کہا یا کریم! آپ کی خدمت میں ایسا عطیہ پیش کروں گا
 کہ آپ اس سے پہلے کسی کو ملا ہوگا اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا۔

مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، اس لئے کہ وہ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہیں۔ سائل نے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے علی رضی اللہ عنہ کے جواب سے آپ کا جواب زیادہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑی بات ہے تو ایسے آدمی کو ناپسند کر رہا ہے جس کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے علم کی بنا پر معزز سمجھتے تھے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ”اے علی“ تیرا نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یونہی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو ان سے دریافت فرماتے۔ یہ حدیث مسند احمد کے علاوہ دوسری کتب میں بھی مروی ہے اور بعض نے کچھ زیادہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔ مثلاً حضرت معاویہ نے اس سائل سے فرمایا کہ کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ تیرے پاؤں کو کھڑا نہ کرے۔ اور اراکین دیوان سے اس کا نام خارج کر دیا۔ مزید فرمایا کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی سے مسائل دریافت کرتے اور استفادہ کرتے تھے اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جب بھی حضرت عمر کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا تو آپ فرماتے کہ یہاں ”حضرت“ علی ”رضی اللہ عنہ“ موجود ہیں۔

امام مستغفری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد تھا تو فرمایا کہ قسم بخدا مجھے علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ اس کے قبل کہ میرے اور ان کے درمیان جو کچھ رونما ہوا، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو اپنے زمانے میں روئے زمین پر سب سے بہتر ہوگا اور ان کا ایک نام آسمان میں ہے جس کو آسمان واسطے

فرماتا اور نہ اس کی دعا کو رد فرماتا ہے۔ پھر میں نے دوبارہ خواب میں سرکارِ
 دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا۔ اے حسن
 اب کیسے ہو۔ عرض کی۔ یا رسول اللہ "صلی اللہ علیہ وسلم" بہتر ہوں۔ اور اپنی ساری
 بات بیان کی۔ تو فرمایا۔ اے میرے نختِ جگر بیٹے، اسی طرح جو اپنی امید کو
 خالق سے وابستہ رکھے اور مخلوق سے امید نہ رکھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ
 ایسا معاملہ کرتا ہے۔

محمد بن محمود آملی اپنی تصنیف نقاس القنون میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت
 معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ
 حضرت علی خدا کی قسم شیر کی طرح تھے۔ جب آواز لگاتے تھے اور جب ظاہر ہوتے
 تو چاند کی طرح۔ جب عطا و اکرام پر آتے تو بارانِ رحمت کی طرح ہوتے تھے۔
 بعض حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل ہیں یا علی؟ فرمایا کہ حضرت علی کے
 چند نقوش بھی آل ابی سفیان سے بہتر ہیں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ آپ نے
 علی سے جنگ کیوں کی؟ فرمایا کہ حکومت و بادشاہت بے خیر ہیں۔ پھر
 فرمایا کہ جو حضرت علی کی مدح میں ان کی شایانِ شان شعر سنانے میں اس کو
 ہر شعر کے بدلے ہزار دینار انعام دوں گا۔ چنانچہ حاضرین نے شعر سنائے اور
 حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں۔ پھر حضرت عمرو
 بن عاص رضی اللہ عنہ نے کئی شعر پڑھے۔ جب وہ اس شعر پہنچے

هو البقاء العظيم وقلات نوح

وہو اب اللہ وانقطع الخطاب

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس شعر کو پکارا اور انہیں سات ہزار
 دینار مرحمت فرمائے۔

لگ گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ احسن کے باپ پر رحمت بے پایاں فرمائے۔ وہ واقعی ایسے ہی تھے۔

ایک آدمی خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت
السادس عشر میں حاضر ہوا اور اس نے یزید کو امیر المومنین کہا تو
 آپ نے اس کے کوڑے لگوائے اور دوسری دفعہ کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ
 عنہ کی ہجو کی تو آپ نے اس کو بھی کوڑے لگوائے۔

ابن عساکر بسند ضعیف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
السابع عشر عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت
 عثمان غنی اور حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حاضر خدمت تھے
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت
 معاویہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں علی سے محبت ہے؟ عرض کیا۔ ہاں یا
 رسول اللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب تمہارے درمیان چپقلش ہوگی
 حضرت معاویہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا
 ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور عفو۔ حضرت معاویہ نے
 عرض کیا کہ ہم قضائے الہی پر ناراضی ہیں۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی
 ولو شاء اللہ ما اقتلوا لکن اللہ يفعل ما يريد
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حضرت امام حسن بن علی
الثامن عشر رضی اللہ عنہما سے متعلق یہ ارشاد گرامی ہے کہ شاید ان
 کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی ہمتوں کے مابین صلح کرادے۔

حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
التاسعة عشر پہلا وہ شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنوائیہ
 کا ایک فرد ہوگا اور اس کو نیرید کہا جائے گا۔ اس کو روایاتی نے اپنی مسند
 میں حضرت ابو ذر داد سے روایت کیا ہے۔

ابو علی "صحیح غالباً ابو لیلیٰ ہے" نے بسند ضعیف حضرت ابو عبیدہ
 رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری
 امت انصاف پر قائم رہے گی۔ حتیٰ کہ پہلا شخص جو اس میں رخنہ ڈالے گا۔
 وہ بنوائیہ کا ایک فرد ہوگا اور اس کو نیرید کہا جائے گا۔ پس یہ بات اس
 اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنت رسول
 کی کوئی مخالفت نہیں کی۔

حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا
 کہ سن ستر ہجری کے شروع سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور نوجوان چھوڑوں
 کی حکومت سے۔ "رواہ احمد"

سنہ ۷۰ سے تاریخ ہجری مراد ہے یا پھر حضور علیہ السلام کی پر وہ
 ہجری کے ۷۰ سال بعد مراد ہے اور نوجوانوں کی امارت سے مراد نیرید کی امارت
 ہے اور اٹھارہ ہجری کی حکومت مراد ہے اور لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی
 ہے کہ حضور علیہ السلام نے نیرید کو دیکھا تھا جبکہ حضرت معاویہ اس کو اٹھائے
 اور اسے اپنے نیرید کے ایک جتنی نے ایک جتنی کو اٹھا رکھا ہے
 اور اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی
 حکومت ہے اور اس سے مراد ہے کہ نیرید نے اپنی جائیں میں ذکر

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا قصہ
 صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ

المکملۃ عشرین

عنہ ۴۳ سال کی عمر میں ماہ رجب میں بمقام دمشق فوت ہوئے۔ آخری عمر میں
 آپ کو لقوہ ہو گیا تھا اور وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں فرمایا کرتے تھے کہ
 کاش میں قریش کے ایک فرد کی طرح ذی طویٰ میں رہتا اور سلطنت و
 حکومت کو نظر بھردیکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ
 عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کی ایک تہبند، ایک چادر "اڑھنے والی"
 ایک قمیص اور کچھ بال شریف اور ناخن تھے۔ آپ کی وصیت تھی کہ
 مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قمیص میں کفنانا اور اسی چادر
 شریف میں لپٹانا اور تہبند میری کمر پر لپیٹ دینا۔ پھر میرے ناک کے
 نتھنوں، پیشانی اور باجھوں میں یہ بال اور ناخن شریف رکھ دینا۔ بعد ازاں
 مجھے اللہ ارحم الراحمین کے حضور میں پیش کر دینا۔

امام الاکبر امام مالک علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ کوئی
 شخص اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً ابوبکر،

الحادی عشرون

عمر، عثمان، معاویہ، یا عمرو بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے
 کسی کو بھی گالی دے یا ایسا دیا کہے تو وہ گھلی گھرائی پر ہے یا کفر پر
 ہے۔ اُسے قتل کیا جائے گا اور اگر گالی کے علاوہ کوئی اور بد گوئی
 کرتا ہے۔ "اعتراض کرتا ہے، تو اسے عبرتناک سزا دی جائے۔" دو صوابی عہدہ

فصل :- صلح کے ذکر میں جو کہ معجزہ ہے

حضرت ابوبکر ثقیفی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں

نے نبی کریم پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جلوہ افروز دیکھا اور حضرت
امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ ایک دفعہ اپنے صحابہ
کو دیکھتے اور ایک دفعہ حضرت حسن کو دیکھتے اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار
ہے اور امید ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دو بڑے گروہوں میں
صلح کرادے گا۔

انہی حضرت ابو بکرہ ثقفی سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں نماز پڑھاتے اور حضرت حسن بچپن میں آتے اور حضور علیہ السلام کی
گردن اور پشت پر بیٹھ جاتے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں
ہوتے تھے پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سجدے سے اُپٹے اُپٹے سر اٹھاتے
تھا کہ امام حسن کو نیچے اتار دیتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا آپ اس بچے سے پیار فرماتے ہیں اتنا کسی دوسرے
بچے سے پیار نہیں فرماتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا میں یہ بھول
ہیں لاریب میرا یہ بیٹا سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے
دو بہت بڑے گروہوں میں صلح کرادے گا۔ یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے
اور تقریباً ایسی ہی روایت مسند احمد میں ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جامع الاصول میں روایت ہے
آپ فرماتے ہیں۔ قسم بھلا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ایک پہاڑ جیسا لشکر
تھا حضرت سیدنا ابو سہیل کے مقابلے پر آگئے تو حضرت عمرو بن حسان نے
سخت مار مار کر ان سے کہا کہ میں ایسے دو مرد قابل لشکروں کو دیکھ رہا
ہوں جو اللہ کے رسول کے لشکر میں نہیں لڑیں گے حضرت مسعود
فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر وہ ان کو

قتل کر ڈالیں تو پھر امور مسلمین کی نگہبانی کے لئے کون رہ جائے گا؟ عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟ بچوں کی دیکھ بھال کے لئے کون رہ جائے گا؟ پھر سنت معاویہ نے قریش کے دو آدمی حضرت عبدالرحمن بن مکرہ اور حضرت عبداللہ بن حامر رضی اللہ عنہما کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ چنانچہ یہ دونوں آپ کی خدمت میں گئے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت حسن بن علی نے ان دونوں سے فرمایا کہ ہم بنو عبدالمطلب کو اس مال میں سے بہت کچھ وصول ہو چکا ہے اور یہ امت ایک دوسرے کا خون بہانے پر تل گئی ہے پس آپ نے صلح کر لی۔

ملا علی قاری کا ہر دلی شرح مشکوٰۃ شریف میں "ذخائر" سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ابو عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیب شہید ہوئے تھے تو امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر چالیس ہزار سے زائد لوگوں نے بیعت کی تھی اور اس سے پہلے وہ لوگ آپ کے والد کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کر چکے تھے اور یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فرمانبردار تھے۔ پس حضرت حسن عراق، ماورالنہر، علاء خراسان میں سات ماہ تک خلیفہ رہے۔ پھر حضرت معاویہ نے ان کی طرف اور انہوں نے حضرت معاویہ کی طرف پیش قدمی کی اور سوا کے صلح میدان میں دونوں لشکر جب آنے سامنے صف آرا ہوئے تو امام حسن نے دیکھا کہ جب تک ایک لشکر دوسرے لشکر کا صفایا نہ کر دے کسی کو غلبہ حاصل نہ ہوگا۔ پس آپ نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ وہ خلافت ان کے سپرد کرتے ہیں مگر اس شرط پر کہ آپ اہل مدینہ، اہل حجاز و عراق کے کسی ایک آدمی سے بھی کسی قسم کی باز پرس نہیں کریں گے۔ خود ان امور کے سلسلے میں جو میرے والد گرامی کے زمانے میں ہو چکے ہیں تو حضرت

معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواباً لکھا کہ یہ تو قیاس میں بھی نہیں ہے۔ مجھے سب کچھ منظور ہے مگر قیس بن سعد کی نہیں اس لئے کہ مجھے وہ جہاں بھی بلا تو میں اس کی زبان اور ہاتھ کاٹ لوں گا۔ حضرت حسن نے دوبارہ لکھا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کی بات ہے تو میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا۔ پھر حضرت معاویہ نے ان کے پاس ایک سفید کاغذ روانہ کیا اور کہا کہ اپنی مرضی کے مطابق شرائط لکھو، میں اس کا پابند رہوں گا۔ چنانچہ ان دونوں کی صلح ہو گئی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ شرط لکھی کہ حضرت معاویہ کے بعد امر خلافت ان کے سپرد ہوگا جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا۔

عازق محقق حضرت محمد بن محمد الحافظی البخاری المعروف خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمۃ جو کہ محبت اہلبیت میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اپنی کتاب فصل الخطاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غنی کا ارشاد ہے کہ جب امر خلافت حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا تو اس سال کا نام "سنت الجاحث" رکھا گیا۔ ایک شیعہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا۔ یا مذل المؤمنین! اے مؤمنین کو ذلیل کرنے والے۔ آپ نے فرمایا۔ میں تو معزز المؤمنین یعنی مؤمنین کو عزت دینے والا ہوں۔ میں نے اپنے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی داریت کو دیکھو وہ نہ جانو اس لئے کہ میرے بعد امر خلافت ان کا ہونا تھا۔ تم نے اس کو گنوا دیا تو تم سرور کو ان کے ٹھکانوں سے

معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو گنوا دیا تو تم سرور کو ان کے ٹھکانوں سے

کرنا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مجھے یہ گمان رہا کہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس آزمائش سے لازماً گزروں گا یہاں تک کہ میں اس آزمائش میں مبتلا ہوا۔ ”رواہ احمد و بیہقی“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق مسلمانوں کی دو
فکتہ عظیم جماعتوں پر جب تم نظر و فکر کرو گے تو تم ہر دو بڑی
 جماعتوں کو معظّم و مکرم پاؤ گے اور عظمت و کرامت ہی ان پر دلالت کرتی ہے۔

حضرت معاویہ پر طعن اور ان کے جوابات

جانے کہ ہم حضرت معاویہ و دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے کیونکہ معصوم ہونا انبیاء و ملائکہ کے ساتھ متحقق ہے اور انہی کے خواص میں سے ہے جیسا کہ مرام الکلام فی علم الکلام میں اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انبیاء کرام سے جو باتیں سہواً یا طبیعت بشریہ سے صادر ہوتی ہیں ان کو نسیان کہا جاتا ہے لیکن ان کا نام ترک افضل رکنا زیادہ افضل ہے اور اگر ایسی کوئی بات کسی ایک صحابی رسول سے ہو درجہ جائے تو ان کی شایان شان نہیں تو یہ بغیر از امکان نہیں اور پھر حضرت صحابہ کرام کے مابین اختلافات و جنگیں ہوئیں نیز ایسی باتوں کا صدور ہوا کہ بن میں غور و فکر کرنے والوں کو حیرانگی ہوتی ہے مگر ہمارے مذہب اہلسنت و جماعت میں حد درجہ اس میں تاویل کرنے کی کوشش کی جائے اور جہاں تاویل ممکن ہی نہ ہو تو وہاں ایسی روایت کو رد کرنا واجب ہے۔ نیز سکوت و طعن سے گریز بھی واجب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر ان حضرات صحابہ سے مغفرت و اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے۔

اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ان حضرات کو آگ مس نہیں کرے گی اور جو ان کے باہمی تناقضات پر تنقید کرے گا اس کے لئے سخت ترین وعید ہے۔ پس جملہ اصحاب رسول سے حسن ظن رکھنا اور ان کا ادب کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہی سلف صالحین محدثین کا اور اصولین حدیث کا مذہب ہے اور اسکا پر ثبات قدمی کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔

اکثر لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں اور شاید اس میں حکمت ہے کہ ان سے کوئی بات ہو گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آخر دنیا تک ان کے لئے اعمال صالحہ کا کوئی سلسلہ جاری رہے قریب ہے کہ جس چیز کو تم مکروہ جانو وہ تمہارے لئے بہتر ہو۔

بعض محدثین نے جن میں مجدوالدین شیرازی نے اپنی کتاب **پہلا طعن** سفر السعاده میں اعتراض کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور اسی طرح بخاری نے ابن ابی عمیر کی حدیث پر لفظ ذکر معاویہ کا باب باندھا ہے۔ دیگر صحابہ کی طرح فضائل و مناقب کا باب نہیں باندھا۔

اس سلسلے میں پہلے زور حدیثیں گزر چکی ہیں۔ ان میں سے **جواب** ایک مسند امام احمد کی اور دوسری سنن ترمذی کی ہے۔

اگر ہم حدیث سے عدم ثبوت مراد ہے تو یہ مراد قول ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں لکھا ہے کہ اس کا دائرہ بہت تنگ ہے اور اس کے فضائل امام احمد نے حسان سے ہی ثابت نہیں کیے تھے۔

اس کے علاوہ سنن ترمذی میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کے فضائل امام احمد نے حسان سے ہی ثابت نہیں کیے تھے۔

درجہ حسن سے کم نہیں ہیں۔ نیز فضائل میں حدیث ضعیف پر عمل کا جواز نہ حدیث میں منعیں ہو چکا ہے۔ روایت حسن کی فضیلت تو اپنی جگہ میں ہے تو بعض کتب معتبرہ میں صاحب میزان امام مجد الدین ابن اثیر کا یہ قول دیکھا ہے کہ سند احمد میں فضیلت معادریہ کی حدیث صحیح ہے مگر اس وقت وہ کتاب یاد نہیں آرہی ہے اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی شرح سفر السعادہ میں انصاف نہیں کیا گویا کہ انہوں نے کلام مصنف کا اقرار کر لیا ہے اور دوسرے تعصبات پر تعقب کی طرح اس پر بھی تعقب نہیں کیا۔

بخاری کے اس فعل کا جواب یہ ہے کہ ان کا تفنن فی الکلام ہے۔ اسی طرح بخاری نے اسامہ بن زید، عبداللہ بن سلام، جبر بن مطعم بن عبداللہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے فضائل جلیلہ کو ذکر معنون سے ہی ذکر کیا ہے۔

دوسرا طعن | امام مسلم علیہ الرحمۃ نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پس میں دروازے کے عقب میں چھپ گیا تو حضور علیہ السلام نے پیار و محبت سے مجھے کندھے پر منگھا رسید فرمایا۔ پھر فرمایا جاؤ معادریہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں گیا اور وہاں آکر جواب دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے۔

یہ کلمہ عرب کی حادث کے طور پر ہے۔ **جواب** | اللہ ما اکرمہ، ویصلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وارضی عنہم۔ اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ یہ کلمہ

اللہ تعالیٰ اس کو موجب رحمت و قدرت بنا دے گا۔ جیسا کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے۔ "باب وہ شخص کہ جس پر تنجالی لہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو یا ملامت کی ہو یا بدو عادی ہو جب کہ وہ اس کا مستحق نہ ہو تو یہ اس کے لئے پاکیزگی، رحمت اور اجر ہوں گی اور پھر اس باب میں مذکورۃ الصدور حدیث لائے ہیں۔

اور اسی میں حضرت بی بی صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اے عائشہ کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط رکھی ہے۔ "سُن" میں نے کہا کہ اے اللہ میں بشر ہی ہوں میں جس مسلمان کو میں نے گالی دی ہو، لعنت کی ہو تو تو اس کو اس شخص کے لئے باعثِ طہارت بنا دے۔

اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اے اللہ میں تیری ذات سے عہد لینا چاہتا ہوں اور تو اس کے کبھی برعکس نہ کرنا۔ میں لباسِ بشری میں ہوں۔ اگر کسی مسلمان کو اذیت دی یا کسی کو میں نے گالی دی ہو، لعنت کی ہو یا مارا ہو تو آپ اس کو اس شخص کے لئے رحمت و باعثِ طہارت بنا دینا اور روزِ حشر اس کو اپنی قربت کا سبب بنا دینا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ اے اللہ میں تمہارے

عہد لینا چاہتا ہوں اور تو اس کے کبھی برعکس نہ کرنا۔ میں لباسِ بشری میں ہوں۔ اگر کسی مسلمان کو اذیت دی یا کسی کو میں نے گالی دی ہو، لعنت کی ہو یا مارا ہو تو آپ اس کو اس شخص کے لئے رحمت و باعثِ طہارت بنا دینا اور روزِ حشر اس کو اپنی قربت کا سبب بنا دینا۔

درخواست کی ہے کہ میں لباس بشری میں ہوں۔ راضی بھی رہتا ہوں جیسے
 دوسرے بشر راضی ہوتے ہیں۔ غصہ بھی ہوتا ہوں جیسے دوسرے بشر غصہ
 ہوتے ہیں۔ پس اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کے لئے بدعا کروں جب کہ
 وہ اس کا مستحق نہ ہو تو تو اسکو شخص کے لئے پاکیزگی اور روزِ حشر اپنے
 تقرب کا باعث بنانا۔ پس اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ
 ایسا فرمایا اور انہیں زمین کی سرداری عطا کی اور یہ اتہائی کرم گسٹری ہے
 ترمذی شریف میں یوسف بن سعید سے مروی ہے کہ

تیسرا طعن

جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ
 عنہ کی بیعت کر چکے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر امام حسن سے کہا کہ
 آپ نے مومنین کا منہ کالا کر دیا ہے۔ یا یہ کہا کہ آپ مومنین کا منہ کالا کرنے
 والے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا کہ تو مجھے برا نہ کہہ اللہ تجھ پر رحم کرے کہ
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبی امیہ کو اپنے منبر پر فروکش دیکھا تو
 آپ نے اس کو اچھانہ بچھا۔ پس سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ اے محمد یعنی ایک
 جنت میں ایک نہر ہے اور سورۃ لیلۃ القدر نازل ہوئی۔ خیر من
 الھن شہرتک۔ اے محمد، بنو امیہ آپ کے بعد ایک ہزار ماہ تک
 حکمرانی کریں گے۔ قاسم بن فضل کہتے ہیں کہ ہم نے بنو امیہ کی حکمرانی کی مدت
 تخمینہ لگایا تو واقعی پورے ایک ہزار ماہ ہوئے۔ نہ کم نہ زیادہ۔ اتہائی امام
 ابن الاثیر اپنی جامع میں فرماتے ہیں کہ یہ تراسی سال چار ماہ ہوتے ہیں۔
 امام حسن کی امیر معاویہ سے بیعت حضور علیہ السلام کے پروردگار نے کے تیس
 سال بعد ہوئی اور ابن کی حکمرانی ابو مسلم خراسانی کے ہاتھ میں ہوئی۔ پس یہ
 توکل ۹۲ سال ہوئے۔ اس میں سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت

کی مدت آٹھ سال آٹھ مہینے نکال دیئے جائیں تو باقی ایک ہزار ماہ رد جاتا ہے۔
اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حضور
علیہ السلام نے پرورد فرمایا اس حال میں کہ آپ تین قبائل کو اچھا نہ سمجھتے تھے
(۱) بنو ثقیف (۲) بنو حنیفہ (۳) بنو امیہ۔ "ترمذی"

یہاں مطلقاً بنو امیہ کی مذمت مقصود نہیں ہے کیونکہ
بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور خلیفہ راشد

جواب

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ دونوں شامل ہیں اور دونوں باجماع
اہل سنت امام الہدی ہیں اور حضور علیہ السلام کی ناگواری کا باعث زید بن
معاویہ، عبید اللہ بن زیاد اور اولاد مروان بن حکم ہے یعنی یہ سنت
رسول کے مخالفت تھے اور اصحاب رسول و آل رسول کو انہوں نے ایذا
دی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقصود یہ ہے کہ امر خلافت کا بنو امیہ
کی طرف منتقل ہونا اور شہتہ تقدیر ہے اور اہل بیت نبوت کے لئے اللہ
کے ہاں سے جلالی ہی جلالی ہے۔

مسلم شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی

جو مخاطب

ہے کہ حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما
حضرت سعد کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے ابو تراب "حضرت علی" کو سبب و
سبب سے کس چیز نے مشا کہا ہے۔ سعد نے کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہاں رہا تو میں نے تم کو سبب نہیں کہا۔ میں ان کو سہر گز
پر لے گیا اور ان کو سبب نہیں کہا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں نے تم کو سبب نہیں کہا۔ اور میں نے تم کو سبب نہیں کہا۔
اور میں نے تم کو سبب نہیں کہا۔ اور میں نے تم کو سبب نہیں کہا۔
اور میں نے تم کو سبب نہیں کہا۔ اور میں نے تم کو سبب نہیں کہا۔

اللہ اور اس کے رسول مقبول سے محبت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہو (۲) جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا اے الہی یہ ہیں میرے اہل بیت "انہی اٹھنا" اور اس میں شک نہیں کہ حضرت علی کی برائی کا کہنا کھلی غلطی ہے۔

شرح مسلم شریف میں مذکور ہے کہ اس کی تاویل کرنا واجب ہے، یا پھر سب و شتم سے مراد ان کی اجتہاد

جواب

میں خطا اور ہمارے اجتہاد کی صحت ہے یا یہ کہ انہوں نے قوم کے کچھ لوگوں کو حضرت علی کو برا بھلا کہتے سنا تو چاہا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زبانی حضرت علی کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو اس سے باز رکھیں اصل بات یہ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں حضرت علی کرم اللہ کو گالی دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں حضرت علی کرم اللہ کو گالی دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ سبب مانع دریافت کیا گیا ہے اور حضرت علی کو ان کی کنیت ابو تراب سے ذکر کرنا یہ کوئی تشبیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ تو آپ کی پسندیدہ کنیت تھی۔

حضرت معاویہ کے دور میں بدعات کا ظہور ہے۔ شرح

پانچواں طعن

وقایہ میں ہے کہ مدعی پر قسم کار و کرنا بدعت ہے۔ اور اس پر سب سے پہلے فیصلہ حضرت معاویہ نے کہا نیز سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے سب سے پہلے خمس، بھڑے، لوگوں کو خادم بنایا اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کو ولیعہد بنایا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شہادت کے مطابق حضرت
جواب معاویہ مجتہد تھے۔ خطا و دھواہ کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے
 پھر انہوں نے یزید کو اہل بیت سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی تھی
 جس کو اس نے پورا نہ کیا اگر حسن ابن علی رضی اللہ عنہما زندہ ہوتے تو حسب
 وعدہ امر خلافت انہیں کے سپرد ہوتا۔

حضرت معاویہ نے حضرت حسن بن علی کو زہر دلوایا۔

چٹا طعن

یہ بہت بڑا بہتان ہے اور مورخین کی ایسی خرافات
جواب ہیں جو معتد علیہ نہیں ہیں۔

تفتازانی کی شرح تلخیص میں مذکور ہے کہ حضرت معاویہ
ساتواں طعن بیمار تھے تو حضرت امام حسن عیادت کے لئے تشریف
 لائے۔ بیٹھے تو معاویہ نے ان کے سامنے یہ اشعار پڑھے۔

وتجلدی للشامتین اریہو، انی لریب الدھر لا اتضع
 واذا المذیبة انشبت اظفارها، الفیت کل تمیمة لا تنفع
جواب یہ روایت غیر صحیح ہے اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس
 میں کوئی تصریح نہیں ہے کہ اس سے مراد حضرت حسن

علیہ السلام ہی ہوں۔

کہ وہ حضرت حسن کے وصال پر خوش ہوئے۔ تاریخ
اٹھواں طعن ابن خلکان میں مذکور ہے کہ اسی روز حضرت ابن
 عباس نے معاویہ سے کہا کہ اس نے کہا کہ
 میں نے کہا کہ یہ سزا معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ
 میں نے کہا کہ یہ سزا معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ

مجھے علم نہیں، مگر آپ کو میں خوش دیکھتا ہوں۔

مورخین حاطب اللیل ہیں اور اگر تسلیم کر بھی لیں تو ممکن ہے ان کی خوشی کسی امر و بیکری کی وجہ سے ہو۔

جواب

حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے لئے حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ "مسلم"

سوال طعن

اہل سنت کا اجماع ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر چڑھائی کی وہ اماناً حق پر چڑھائی کرنے والے ہیں مگر یہ بغاوت اجتہادی تھی جو کہ ان پر معاف ہے، ملا علی قاری

جواب

شرح مشکوٰۃ میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی یہ تاویل کرتے تھے کہ ہمارا گروہ تو خونِ عثمان رضی اللہ عنہ کا رطلہ لہ کرنے والا تھا۔

جنگ صفین میں حضرت علی کا قول "عبادت مخدوف

سوال طعن

ہے" قاضی میند کا حضرت علی کے ولوان کی شرح میں یہ گمان کیا ہے کہ ابتر سے مراد حضرت معاویہ ہیں اور اس کی تائید میں وہ حدیث ذکر کی ہے جو سورۃ کوثر کے نزول کا سبب ہے۔

یہ ولوان حضرت علی سے بستہ شیعہ منسوب ہے جو کہ

جواب

وضع و تحریف میں ضرب المثل ہے۔ بر تقدیر تسلیم ہم یہ

نہیں مانتے کہ شارح نے جو ذکر کیا ہے وہی مراد صاحب ولوان کی ہے اس پر کیا حجت ہے کہ دوسرے پر قاضی شارح جیسے لوگ برائی کریں،

اور پھر خلیفہ یغفور تعزیر کی شخص کو سب و شتم کر سکتا ہے جبکہ دوسروں

کے لئے یہ جائز نہیں، بالجملة۔ جب ان اکابر کے مابین طعن باللسان

”تکوا“ وقوع پذیر ہوا ہے تو زبانی طعن تو بہت ہی کم ہے مگر یہ بھی دوسروں کے لئے جائز نہیں۔ اگر دو سبائی آپس میں سب و شتم کریں تو کسی دوسرے کو جائز نہیں کہ کسی ایک کو گالی دے، اس نے بہت سے اعتراضات کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ ان میں سے زعفرانی اپنی کتاب میں حضرت عبدالرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

الابلیغ مع اذیة بن حوب ۱۶ میر القاطعین بنا کلامی
معاویہ بن حرب کو میری یہ بات پہنچا دو کہ وہ ہم پر ظلم کرنے والوں کا

امیر ہے۔

پہلی بات یہ کہ کیا یہ شعر ثابت بھی ہے یا کہ موضوع ہے اور زعفرانی نے تو اپنی تفسیر میں ایسی احادیث نقل کی ہیں جن کے بطلان پر کسی کو شک بھی نہیں اور اعتزال و رفض تو ایک ہی وادی سے ہیں۔

ان میں سے ایک امام مسلم نے اپنی صحیح میں عبدالرحمن بن عبد ربیع کے
سے روایت کی ہے۔ وہ کلام طویل ہے۔ اس کی تلخیص یہ ہے کہ حضرت عبداللہ
بن عمرو بن غاص رضی اللہ عنہما نے کعبہ کے سامنے میں بیٹھ کر یہ حدیث مرفوعاً
بیان کی کہ جو امام پر حملہ کرے تو اسے قتل کر دو۔ عبدالرحمن نے ان سے کہا کہ یہ
تیرے چچا زاد معاویہ ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کا ناحق مال کھانے کا اور
قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ عبداللہ کچھ دیر خاموش رہے پھر بولے کہ اللہ تعالیٰ
کی راضیت میں اس کی اطاعت کرو اور معاصی میں اس سے بچو۔ وراصل
یہ کہ معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس اجتہادی خطا کا اظہار
کرنے کے لئے اس حدیث سے منکر کرنے اور ان پر مال خرچ کرنے کی شکل

کئی ایک لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ محدث جلیل ابو عبد الرحمن
 گیارہ ہواں طعن | احمد نسائی نے اہل شام سے سوال کیا کہ ہمیں فضیلت

معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی حدیث سنائیں۔ انہوں نے کہا۔
 لا اذبح اللہ، بطنی اللہ، ان کا پیٹ نہ بھرے کے علاوہ
 مجھے کوئی حدیث معلوم نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے "کیا معاویہ
 اس پر راضی نہیں کہ متساوی چھوٹ جائیں، وہ فضیلت ڈھونگ ہیں پس
 اہل شام نے ان کو مارا کہ وہ بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے۔"

اہل شام کے سوال کا مقصود تھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ
 جواب | وجہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کریں

پس وہ سوائے ادب کے باعث ناراض ہو گئے۔ یہاں تک تو احسن تھا
 مگر جب وہ صحابی پر طعن میں حد سے بڑھ گئے تو انہوں نے مارا بہر حال
 بشر سے خطا ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ نسائی کی اس سے مراد حضرت معاویہ
 رضی اللہ عنہ کی مدح ہو جیسا کہ گزر چکا ہے پھر اس قبیل کے کلمات تو حضرت
 معاویہ کے لئے موجب پاکیزگی اور اجر و رحمت ہیں مگر اہل شام اس کے
 مفہوم نہ سمجھے یا پھر انہوں نے سوچا کہ اس محدث نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو
 حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ترجیح کیوں دی۔ پس اپنی جہالت کے باعث انہوں
 نے اس محدث کو مارا۔

اکثر صحیح اور حسن روایت میں ایسے لوگوں کے لئے
 بارہواں طعن | وعید شدید مذکور ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے بغض رکھیں یا ان سے جنگ لڑیں۔

کی منہاج پر نہ تھی۔ اس لئے کہ انہوں نے صحابحات کو وسعت دی جبکہ خلفاء اربعہ نے اس سے احتراز کیا۔ پھر ابرار کی حساسات بھی تو مقربین کی سیئات میں گنی جاتی ہیں اور شاید ان کی توسیع ابنائے زمانہ کے قصور ہمت کی وجہ سے تھی۔ اگرچہ خود ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں جیسا کہ تو پہلے جان چکے ہیں البتہ خلفاء اربعہ کا عبادات و معاملات میں رحمان بالکل واضح و ظاہر ہے جس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔

فصل - حضرت عمرو بن عاص کے ذکر میں

ابو عبد اللہ اور ابو محمد آپ کی کنیت ہے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وزیر تھے۔ ترمذی نے حضرت عتبہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم سے ایک غریب اور عزموی سند سے مرفوعاً حدیث بیان کی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے مگر عمرو بن عاص ایمان لائے ہیں یعنی قریش تو فتح مکہ کی ہیبت سے اسلام لائے تھے اور عمرو بن عاص فتح سے سال دو سال پہلے برضاد و بغضت ایمان لائے تھے۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ ان کے دل میں اس وقت جیشہ میں اسلام بیٹھ گیا تھا۔ جب شاہ نجاشی نے سرکارِ دو عالم کی نبوت کا اعتراف کیا تھا اور بغیر کسی دعوت کے بحالت ایمان یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ مدینہ پہنچے اور ایمان لائے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ رضوان اللہ علیہم ماہ صفر ۸ھ میں ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے تھے۔ آپ سے آپ کے بیٹے عبد اللہ، غلام ابو قیس، قیس بن ابی حازم، ابو عثمان ہندی، قبیضہ بن زویب، ابو حروہ غلام عقیل، عبدالرحمن بن ثامر، عروہ بن زبیر و دیگر حضرات رضوان اللہ عنہم نے روایت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے عمرو بن عاص کو غزوہ ذات السلاسل میں امیر مقرر کیا تھا۔
 ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 مرتبہ آپ کو جھنڈا بھی عطا کیا تھا حالانکہ اس وقت ابوبکر صدیق، عمر فاروق
 اور حضرت علی رضی اللہ عنہم دوسرے حضرات بھی موجود تھے یہ آپ کی وحشت
 کو دور کرنے کی شرض سے تھا اس لئے کہ یہ قبول اسلام سے قبل مسلمانوں سے
 شدید عداوت رکھتے تھے۔

تاریخ ذہبی میں ہے حضرت حماد بن سنانہ نے اپنی مسند سے حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں یعنی عمرو اور ہشام، عبد الجبار بن الورد ابن
 ابی ملیکہ سے اور وہ حضرت طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ عبداللہ کی ماں اور عبداللہ کے
 باپ بہترین اہلبیت ہیں۔

امام مسلم اپنی صحیح میں ابی شماس مہری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم بوقت
 نزع حضرت عمرو بن العاص کے ہاں حاضر ہوئے تو وہ بہت رستے اور چہرہ
 دیوار کی طرف گھمایا۔ ان کے بیٹے ان سے کہتے تھے کہ ابا جان حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے تو آپ کو قلائق لائن بشارت دی تھی۔ پس آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ
 کی وعدائیت اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کو
 سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ پھر میں نے تین دور دیکھے ہیں۔ ایک وہ کہ میں
 نے آپ کو رسول اللہ کا سب سے زیادہ دشمن دیکھا ہے اور اس کے
 علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا کہ کسی طرح میں حضور علیہ السلام پر قابو پا کر
 نہ تو ہوا اور نہ ہی اس کی قوت میں قوت ہو جاتا تو میں جہنمی
 ہوتا۔

کی خدمت اقدس میں آگیا اور عرض کیا کہ آپ سیدھا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا حضور علیہ السلام نے فرمایا عمرو کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط کا ارادہ ہے۔ فرمایا کیسی شرط؟ میں نے عرض کی کہ میری بخشش ہو جائے۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت سابقہ تمام خطاؤں کو مٹا دیتی ہے اور بیشک حج بھی ماقبل کی تمام معصیت کو دھو دیتا ہے۔

”الغرض میں نے بیعت کر لی“ پھر کون تھا جو حضور علیہ السلام سے مجھ سے بڑھ کر محبت کرتا اور میری نظر میں آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ دربر نہیں تھا اور آپ کے جلال و رعب کے باعث میں آپ کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اگر کوئی مجھ سے آپ کی وصف ”حلیہ“ دریافت کرے تو نہیں بتا سکوں گا۔ اس لئے میری آنکھوں نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا ہی کب تھا۔ اگر میں اس حالت میں فوت ہو جاتا تو مجھے قوی امید ہے کہ میں سیدھا جنت میں جاتا۔ پھر میں نے ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈالا کہ تو نہیں جانتا کہ اس میں میرا کیا حال تھا۔ پس جب میں اس حالت میں مروں تو نہ تو کوئی رونے والی میرے قریب آئے اور نہ آگ۔ پھر جب تم مجھے دفن کرو تو میرے اوپر مٹی ڈالنا اور اتنی دیر میری قبر کے ارد گرد رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس کروں اور دیکھوں کہ میرے رب کے قاصد ”منکر نکیر“ مجھ سے کیا کیا پوچھتے ہیں۔

فصل حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے ذکر میں

ابن عساکر نے بطریق ابن وہب سے انہوں نے حرملہ بن عمران سے انہوں نے سالم اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے اللہ ابوسفیان پر لعنت کر۔ اے اللہ حارث بن ہشام پر لعنت کر۔ اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت کر۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ آپ کے لئے کوئی امر نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے اور چاہے تو ان کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پس وہ اسلام لائے اور وہ اسلام میں اچھے رہے۔ ترمذی نے اس کو روایت کر کے حسن کہا ہے اور جامع الاصول میں ہے کہ حضرت ابوسفیان کی طائف کی لڑائی میں ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور وہ جنگ یرموک تک ایک آنکھ سے رہے مگر جنگ یرموک میں دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی تو وہ نابینا ہو گئے اور **یا سۃ** اور بعض نے کہا کہ **سۃ** میں بدریہ شریفی میں ان کا انتقال ہوا اور نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔ زعمشری نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان **عسی اللہ ان یجعل بینک و بین الذین عادیتو منہو مودۃ** کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی تو ان کی سختی نرم ہو گئی اور خردی ختم ہو گئی۔

امام مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان نہ تو ابوسفیان کی طرف دیکھتے تھے اور نہ ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ پس انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے تین چیزیں مرحمت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: **اچھا کون سی؟ عرض کیا کہ میری بیٹی ام حبیبہ عرب کی حسین اور جمیل ترین بیٹی ہے۔ آپ نے اس کا نکاح کرنا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔** **اچھا کون سی؟ عرض کیا کہ میری بیٹی ام حبیبہ عرب کی حسین اور جمیل ترین بیٹی ہے۔ آپ نے اس کا نکاح کرنا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔** **اچھا کون سی؟ عرض کیا کہ میری بیٹی ام حبیبہ عرب کی حسین اور جمیل ترین بیٹی ہے۔ آپ نے اس کا نکاح کرنا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔**

شرح مسلم میں اس حدیث کو مشکل کہا گیا ہے اس لئے کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ
 میں اسلام لائے تھے اور حضور علیہ السلام کا نکاح اس سے قبل ۶ سالہ میں
 حضرت ام حبیبہ سے ہو چکا تھا اور یہ تمہور کے نزدیک درست ہے۔ کہا
 گیا ہے کہ یہ حدیث بعض راویوں کا وہم ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ موضوع ہے
 مگر یہ سب اقوال مردود ہیں اس لئے کہ راوی سب کے سب ثقہ ہیں اور
 ابن زبیل کا گمان ہے کہ اگر وہ حضور علیہ السلام سے یہ سب کچھ طلب نہ کرتے
 تو آپ اس کو کچھ بھی عطا نہ کرتے اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر
 سائل کو اثبات میں ہی جواب دیتے تھے۔

فصل: حضرت ابوسفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی والدہ کا کچھ ذکر

مؤلف مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے دن اپنے شوہر کے اسلام لانے
 کے بعد مسلمان ہوئی تھیں اور حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو اسی سابقہ نکاح
 پر برقرار رکھا۔ وہ بڑی فصیح و بلیغ خاتون تھیں اور عقلمند بھی۔ جب عورتوں
 نے سرکارِ دو عالم کی بیعت کی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک
 نہ بناؤ گی۔ کہنے لگی کہ میں تو جاہلیت میں بھی شریک پر راضی نہیں تھی اور پھر
 اسلام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چوری نہیں کریگی
 تو کہنے لگیں کہ ابوسفیان ذرا ہاتھ کھینچ کر رکھنے والے آدمی ہیں۔ آپ نے فرمایا
 ہاں اپنی اور اپنے بیٹے کی حسب کفالت تو اس کے مال سے لے سکتی ہے
 آپ نے پھر فرمایا کہ زنا کے قریب نہ پھٹکنا۔ تو کہنے لگیں۔ کیا کوئی آزاد شریف
 عورت زنا کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: قتل نہ کرنا اپنی اولاد کو۔ تو کہنے لگیں۔
 کہ کیا آپ نے ہمارا کوئی ایسا بچہ چھوڑا ہے جس کو بدر میں قتل نہ کیا ہو۔ پچھنے
 میں ان کو ہم نے پالا اور جب بڑے ہوئے تو آپ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرائے۔ ام معاویہ

قسطانی اپنی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ مروان سرکارِ دو عالم کی حیات میں پیدا ہوئے اور آپ سے سماعت بھی کی ہے۔ وہ بچپن میں ہی اپنے باپ حاکم کے ہمراہ طائف چلے گئے تھے اور وہیں رہے۔ اس وقت تک جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی اور ان کو مدینے بلوایا۔ ”اتہی ملخصاً“

میں کہتا ہوں کہ یہ بات میرے نزدیک غلط مطاب ہے اور کتاب تواریخ میں ان کے محاسن سے زیادہ مطاعن مذکور ہیں۔ ”خدا ہی جانتا ہے“ ان پر کئے گئے اعتراضات میں سے ایک وہ فتنہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بپا ہوا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے حضرت امام حسن کو روضہ رسول میں دفن کرنے سے منع کیا تھا۔ تیسرا یہ کہ جب ان کو تھنک کے لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ذرع ابن ذرع ملعون ابن ملعون ہے۔ حاکم نے اس کو اپنی تصحیح مستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ جنگ جمل میں انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور اس کے محاسن میں حدیث کا روایت کرنا شامل ہے۔

صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ انہوں نے بے شمار صحابہ سے روایت کی ہے جن میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما شامل ہیں اور ان سے عروہ ابن زبیر اور علی بن حسین نے روایت کی ہے۔

ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیدار کا شرف حاصل ہے۔ اگر یہ ثابت ہے تو پھر جن حضرات نے ان پر کلام کیا ہے وہ معتمد علیہ اپنے قول میں نہیں ہیں۔ اس لئے کہ وہ اجل روایت ہیں۔ پس حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ حدیث میں بہتم نہیں تھے اور صحابی رسول پہل بن سعد السامی نے ان کے صدق پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے روایت کی ہے اور وہ جو ان پر

تفتیح کی گئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا پھر طلب خلافت بالسیف میں ان کی شہرت ہے۔ حتیٰ کہ ہوا جو کچھ ہوا مگر طلحہ رضی اللہ عنہ کا قتل بالتادیل تھا۔ انتہی

بخاری نے محمد بن یسار سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے مروان سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ کے ہاں موجود تھا۔ حضرت عثمانؓ نے مجمع سے روکا اور فرمایا کہ حج اور عمرہ کو ایک احرام میں جمع کیا جائے۔ پس میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ انہوں نے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر تبلیہ کہا اور فرمایا کہ میں کسی کے کہنے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک نہیں کر سکتا، بالجملة مروان کے مطاعن میں سکوت ادائی ہے۔

بخاری کے بعض شراح نے کہا ہے کہ حاکم کی روایت حدیث ان کے لئے قریب پاکیزگی و رحمت کا موجب ہے۔ واللہ اعلم۔

مؤلف "شیخ عبدالعزیز پر ہاروی" فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ اہل انصاف کے لئے کافی ہے اور مبتدعین کی سرکشی کے لئے میں اللہ سے ہی ان کی شکایت کر سکتا ہوں۔ یہ نماز جمعہ کا وقت ہے۔ رمضان شریف کی تین تاریخ اور سال ۱۳۳۲ھ ہے اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کا سوال کرتا ہوں اور وہ میرے لئے صاحبِ جود و انعام ہے۔

مترجم اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل پر یمنون ہے کہ آج ۸ دسمبر ۱۹۸۳ء مطابق ۲ ربیع الثانی ۱۴۰۴ھ بروز جمعرات بوقت صبح اس تالیف جلیل کا ترجمہ

پیش کیا گیا ہے۔
 مترجم: محمد سعید صاحب، مدرسہ اسلامیہ، لاہور۔
 تالیف: علامہ ابن کثیر، دار الفکر، بیروت۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

خلیفہ راشد

عطاءے غوث العالم، شہزادہ حضور محدث اعظم، برادر حضور شیخ الاسلام،
امیر کشور، خطابت غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی

والضیٰ پبلیکیشنز

داتا دربار، مارکیٹ، لاہور۔ پاکستان
0300-7259263, 0315-4959263

عقیدہ کی اصلاح کے لیے ایک عمدہ کتاب

من ظوم معاویہ؟

مؤلف

قاری محمد لقمان قادری

مقرظین: مولانا محمد صدیق ہزاروی، پیر سائیں علامہ غلام رسول قاسمی
مولانا مفتی غلام حسن قادری، مولانا مفتی محمد عبدالشکور الباروی
مولانا محمد بنشاشا، بش قصوری، مولانا غلام مصطفیٰ نوری، مولانا محمد کاشف اقبال مدنی

دارالاسلام، لاہور

البشارات العالیہ لمن احب سیدنا معاویہ

مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

مصنف

محقق: اہل سنت حضرت علامہ حکیم مفتی شفقت احمد نقشبندی مجددی کیلانی

ڈاکٹر اعلیٰ پریل کیشنر، لاہور

خوش خبری

دفاعِ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

کی آئندہ جلد

میں درج ذیل رسائل شامل ہوں گے

- ۱- حلم معاویہ: امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن عبید بن ابی الدنیا
 - ۲- القول الرضی: مخدوم شیخ محمد ابراہیم ٹھٹھوی سندھی
 - ۳- شان امیر معاویہ: امام الحدیث سید دیدار علی شاہ محدث الوری
 - ۴- سیدنا امیر معاویہ: محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری
 - ۵- العقیدۃ الصافیہ: حضرت مولانا محمد عبد الجلیل گیاوی
 - ۶- فضائل حضرت امیر معاویہ: مولانا قاضی غلام محمود ہزاروی
 - ۷- شان امیر معاویہ: مولانا ابوالحقوق غلام مرتضیٰ ساقی
- ان شاء اللہ عن قریب منظر عام پر جلوہ افروز ہوگی

دعا کی طاقت اور اس کی اہمیت شاکر حسین صاحب مدظلہ العالی

حضرت مولانا محمد عارف صاحب مدظلہ العالی
پرنسپل کراچی ایجوکیشنل سوسائٹی
کراچی

C-8 محی الدین بلڈنگ و اتاؤر بار مارکیٹ لاہور

Cell:0321-9425765

دارالافتاء